عملیات سرور رحمۃ اللہ علیہ

مجرب ترین اور آزمودہ وظائف کا حسین مجموعہ

بیاض

پیر طریقت، رہبر شریعت
استاد الانس والجن فقیر کامل
حضرت مولانا **غلام سرور** رح

ترجمہ و تالیف
فقیر محمد بلال نظامی نقشبندی چشتی سروری قادری مدظلہ العالی

فقیر کامل
مولانا سعید احمد سعدی رح

فقیر محمد بلال نظامی

پیر طریقت، رہبر شریعت
استاد الانس والجن فقیر کامل

حضرت مولانا غلام سرور رح

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ

سرکلر روڈ نزد جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

عملیات سرور رحمۃ اللہ علیہ

مجرب ترین اور آزمودہ وظائف کا حسین مجموعہ

بیاض

پیر طریقت، رہبر شریعت
استاد الانس والجن فقیر کامل
حضرت مولانا غلام سرور رح

ترجمہ
تالیف
فقیر محمد بلال نظامی نقشبندی چشتی سروری قادری مدظلہ العالی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب : عملیات سرور رحمۃ اللہ علیہ

بیاض : استاد الانس والجن فقیر کامل حضرت مولانا غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تالیف : فقیر محمد بلال نظامی نقشبندی چشتی سروری قادری مدظلہ العالی

معاونین : مطیع الصمد۔ قاری باسط علی
محمد غیاث الدین سرور، خواجہ محمد حسن نظامی

ناشر : ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ سرکلر روڈ میلسی

سن اشاعت : 2016ء

تعداد :

سرورق : شاہد جمیل میلسی: 0305-5474965

کمپوزنگ : اے ون کمپوزنگ سنٹر میلسی: 0333-6267965

ملنے کے پتے

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ

سرکلر روڈ نزد جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ

عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ

اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ؕ

اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی

اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی

اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ

اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ؕ

اجازت عملیات

اکابر علماء نے طلسمات ومخفیات اور ماہرین عملیات نے چلہ کشی کے حقائق پر مشتمل وظائف و دعوات کے سلسلہ کے جملہ قسم کے اعمال اوران کی بجا آوری کیلئے جن شرائط وآداب کو ضروری قرار دیا ہے ان میں سے اجازت عمل یعنی عمل کے لئے ماہر عامل کی اجازت کو لازمی اور شرط اول کے طور پر بیان کیا ہے، علم وفن اور قارئین کرام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ "عملیات سرورؒ" کے مندرجات اور روحانی اعمال ومجربات کیلئے چلہ کشی اور ریاضت و نقوش کا ارادہ رکھتے ہوں سب سے پہلے فقیر کامل غلام سرورؒ کی قبر مبارک پر ریاضت کرنے سے چلہ کشی کے تمام مشکلات آسان ہوجاتی ہیں، تو سب سے پہلے فقیر محمد بلال نظامی نقشبندی چشتی سروری قادری ماہر علوم و روحانی سے اجازت عملیات حاصل کرلیں تاکہ شب وروز کی محنت اکارت نہ جائے، اساتذہ سے رہنمائی اور اجازت حاصل کرلینے کے علاوہ رجعت سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور بے استاد ہمیشہ ناکام ونامراد رہتا ہے،

فقیر کامل حضرت مولانا سعید احمد سعدی
صدر مجلس مشاورت ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد سعدیہ تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

توجہ فرمائیں : حضرت مولانا فقیر کامل غلام سرورؒ کی آنے والی کتاب دعا سیفی مع عملیات سرورؒ۔ دعا سیفی کے عملیات اور تعویزات پر لکھی جانے والی ایسی کتاب جس میں ایک عام آدمی کو مضبوط عامل بنادے اور ایک عامل کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی عمل دعا سیفی سے جو عملیات کے قوانین کو مدنظر رکھ کر بارہا آزمودہ تجربات عملیات پر مشتمل ہے۔ جو بازار میں پائی جانی والی دیگر تمام عملیات کی کتب سے بے نیاز کردے گی، جس کا مطالعہ ہر عامل کیلئے اشد ضروری ہے، خصوصاً مضبوط عمل کے متلاشی حضرات اور کاملین کی لاٹری ایک انمول تحفہ

ہے۔

فہرست مضامین

مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
تعارف	13	آٹھواں نقش	40
ممبر شپ	14	نوواں نقش	41
عرض ناشر	15	دسواں نقش	42
حالات زندگی مولانا سرورؒ	17	11 واں نقش	42
باب اول، دعا برہتیہ	29	12 نقش	43
دعا برہتیہ کے ۱۲۸ اسماء	30	دعا برہتیہ۔ پہلا اسم	44
دعا برہتیہ عاملین کی نظر میں	31	دعا برہتیہ۔ دوسرا اسم	45
حضرت آصف بن برخیاء	32	دعا برہتیہ۔ تیسرا اسم	46
۱۲ نقوش دعا برہتیہ کے عکس میں	34	دعا برہتیہ۔ چوتھا اسم	47
پہلا نقش	34	دعا برہتیہ۔ پانچواں اسم	48
دوسرا نقش	35	دعا برہتیہ۔ چھٹا اسم	49
تیسرا نقش	36	دعا برہتیہ۔ ساتواں اسم	50
چوتھا نقش	37	دعا برہتیہ۔ آٹھواں اسم	50
پانچواں نقش	38	دعا برہتیہ۔ نوواں اسم	51
چھٹا نقش	38	دعا برہتیہ۔ دسواں اسم	51

ساتواں نقش	39	دعا برہتیہ۔ ۱۱واں اسم	52
مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
دعا برہتیہ۔ ۱۲واں اسم	53	باب دوئم۔ تشخیص اول	64
دعا برہتیہ۔ ۱۳واں اسم	54	دوسرا طریقہ تشخیص	65
دعا برہتیہ۔ ۱۴واں اسم	54	تیسرا طریقہ تشخیص	65
دعا برہتیہ۔ ۱۵واں اسم	55	چوتھا طریقہ تشخیص	65
دعا برہتیہ۔ ۱۶واں اسم	56	باب سوئم۔ جادو کا علاج	67
دعا برہتیہ۔ ۱۷واں اسم	57	جنات، سایہ، جادو درد کیلئے	67
دعا برہتیہ۔ ۱۸اسم	58	کسی عامل ظالم سے عمل کھینچنا	67
دعا برہتیہ۔ ۱۹واں اسم	58	گھر میں جنات کا ڈیرہ ہو	68
دعا برہتیہ۔ ۲۰واں اسم	59	جنات کو گھر سے باہر نکالنا	68
دعا برہتیہ۔ ۲۱واں اسم	59	حاملہ عورت کو آسیب نظر آتے ہوں	69
دعا برہتیہ۔ ۲۲واں اسم	60	مکان میں پتھر آنا	70
دعا برہتیہ۔ ۲۳واں اسم	60	گھر میں پری کا سایہ ہو	70
دعا برہتیہ۔ ۲۴واں اسم	61	جادو ٹونہ اور ہر مرض کا علاج	71
دعا برہتیہ۔ ۲۵واں اسم	61	کاروبار کی بندش ہو	71
دعا برہتیہ۔ ۲۶واں اسم	62	گھر میں خون کے چھینٹے آنا	71

دعا بر ہتیہ۔ ۲۷ واں اسم	62	چڑیل کے بد اثرات	72
دعا بر ہتیہ۔ ۲۸ واں اسم	63	جنات سے متاثر کا علاج	72
مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
فلیتے کے ذریعے علاج	74	جادو کا اثر زائل کرنا	87
مریض کو جنات کے دورے پڑنا	75	نقش برائے آسیب	87
رات کو سوتے ہوئے ڈرنا	76	آسیب و جادو کا خاص علاج	88
جنات کو بھگانا۔	76	سحر کا علاج	88
ہانڈی کا خاص عمل	77	دفع سحر	89
ہانڈی کا خاص عمل۔ ۲	78	سفلی جادو کے اثرات	89
سری والا عمل (مجرب است)	79	سورۃ البقرہ سے سفلی جادو کا علاج	90
بکرے کا مجرب عمل	81	معوذتین سے سفلی جادو کا علاج	90
آسیب زدہ کا عمل	82	حروف صوافت سے علاج	90
واپسی سحر	83	جادو سایہ کا علاج	90
جادو واپس لوٹ جائے	83	رجعت عمل اور نحوست کا علاج	91
جادو کی واپسی	84	برائے دفع سحر	91
واپسی جادو کیلئے	85	جادو کا اثر زائل کرنا	92
آسیب اور جنات کو بھگانا	85	جن بھوت کا اثر زائل کرنا	92

حفاظت جادو	86	اونٹ کی ہڈی سے جادو کا علاج	93
واسطے دفع آسیب	86	حروف مقطعات سے جادو کا علاج	94
برائے آسیب	87	معوذتین سے کالے جادو کا علاج	95
سورۃ الکوثر کا طریقہ خاص	96	نامردگی کیلئے	106
سورۃ بقرہ سے علاج	96	طلسم باندھے ہوئے مرد کیلئے	106
شفائے مرض	98	انزال جلد نہ ہو	106
باب چہارم علاج اطفال	100	برائے امساک	107
جو بچہ ضد کرتا ہو	101	درد جسم کا فوراً علاج	107
جس بچے کو دورے پڑتے ہوں	101	نقش رفتار	107
برائے دفع ام الصبیان	102	برائے احتلام	108
بچے کا سوکڑا پن	102	احتلام	108
بچہ دودھ پینے لگے	102	دفع احتلام	108
جو بچہ روتا ہو	103	شہوت بستہ کھولنے کیلئے	109
جس بچے کو دمہ ہو	103	طلسم شہوت کشادہ	109
جس بچے کے دل میں سوراخ ہو	103	قوت مردی	109
بچے کے سوکڑا پن کیلئے	104	بستہ مرد کھل جائے	110

برائے مسان وآسیب	104	درد ناف مجرب	110
برائے نظر بد	104	درد ناف یا پیٹ	110
برائے نظر بد	105	باب ششم، عورتوں کا علاج	111
باب پنجم، مردوں کا علاج	105	حیض بند کرنے کیلئے طلسم	111
طلسم کشادگی مرد کیلئے	105	خرابی حیض مجرب	111
خرابی حیض کیلئے	112	برائے اٹھرا مجرب	119
مرگی ہٹانے کا نقش طلسم	112	علاج اٹھرا	119
مرض ہسٹریا کیلئے	112	اٹھرا کیلئے مجرب	120
بانجھ پن کا علاج	113	ولادت میں آسانی مجرب	120
بانجھ پن کیلئے	113	آپریشن سے بچاؤ کیلئے	120
دافع بانجھ پن	114	آسانی ولادت	121
بانجھ پن کیلئے	114	برائے ولادت آسانی	121
بانجھ پن کیلئے طلسم	114	آسانی ولادت	121
حمل قرار پائے	115	ولادت میں آسانی	122
اسقاط حمل (مجرب)	115	نقش چھٹکارا	122
حمل کے دوران خون جاری ہونا	115	بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے	122
اسقاط حمل	116	آسانی ولادت	123
حمل قرار پائے	116	سو باندھنا، حمل نہ ہو	123

حمل قرار پائے	117	برائے سو باندھنا	123
برائے حمل	117	باب ہفتم، میٹھی مرادیں	123
برائے حمل مجرب	118	اولاد نرینہ	124
برائے اٹھرا مجرب	118	طلب فرزند	124
علاج اٹھرا مجرب	119	اولاد نرینہ کیلئے	125
فرزند کیلئے	125	بند پیشاپ کھل جائے	133
بیٹا ہوگا	125	دودھ میں خون آنا	133
سورۃ البقرہ سے شرطیہ بیٹا	126	جانور کو موذی جانور نے کاٹ لیا	134
میٹھی مراد جو [illegible] مجرب	126	جانور کو کتے نے کاٹ لیا	134
سو بدلنے کیلئے	127	باب نہم، محبت کا چراغ	134
اولاد نرینہ ہوگی	127	برائے حب	135
بانجھ عورت کا لڑکا ہو	127	طلسم حب مجرب	136
حمل ضائع نہ ہو	128	طلسم محبت	136
بانجھ کے ہاں بیٹا ہو	128	طلسم برائے محبت	136
بیٹا ہی ہو	128	طلسم محبوب حاضری	137
اولاد نرینہ کیلئے	129	محبت کیلئے مجرب	137
وارث	129	محبت کا مجرب نقش	138

باب ہشتم، جانوروں کا علاج	130	محبت کا خاص صدری عمل	138
اگر مال مویشی مرجاتے ہوں	130	سورۃ الفیل کا خاص عمل	139
جان لیوا جادو سے نجات	131	سورۃ الفیل کا عمل بے مثال	140
جانوروں کے جوڑوں کا درد	131	سورۃ الفیل کا باموکل عمل	141
برائے نظر بد	132	طلسم محبت کیلئے	142
برائے حفاظت	132	طلسم حب مجرب	142
مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
طلسم حب بکری کا نشانہ	142	محبت کا نقش	152
طلسم محبت	143	محبت کیلئے خاص (مجرب)	152
محبت کیلئے	143	حروف مقطعات سے حب کا عمل	153
محبت کیلئے	143	معشوق قدموں	153
محبت کا طلسم مجرب	143	محبت کیلئے	154
حاضری کا خاص عمل مجرب	144	طلسم حب تیر بہدف	154
عشق و محبت کا عمل	145	رشتہ جلد ملے	155
محبت کا منتر	146	من پسند شادی کا مجرب عمل	155
محبت کیلئے	146	من پسند شادی کا مجرب عمل	156
محبت کا تیر بہدف عمل	147	من پسند شادی کا خاص طلسم	156
آنکھ جھپکنے سے پہلے	148	بخت کشائی کیلئے مجرب	157

محبت کا خاص طلسم	149	شادی کیلئے مجرب	157
برائے محبت	150	پیغام شادی مجرب عمل	158
محبت میں بے قرای	150	برائے شادی	158
عمل حب	151	نکاح جلد ہو	159
سنگدل محبوب آپکے قدموں میں	151	محبت اور شادی کا نقش	159
حب کا مجرب عمل	151	کشائش بخت	160
مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
شادی کی بندش ختم	161	من پسند جگہ شادی ہو	168
برائے بخت کشائش	161	بخت کشادہ ہو	168
دختران [illegible]	162	دختران پریشان کی بخت کشائی	169
اگر رشتہ نہ آتا ہو	162	نکاح میں مشکلات	170
حصول رشتہ	162	بندش نکاح	170
بندش نکاح کا کھلنا	163	پیغام شادی فوراً آئے	170
رشتہ ہو جائے مجرب	163	من پسند شادی	171
شادی اور محبت کیلئے	163	عمل برائے شادی	171
رکاوٹ شادی	164	شادی کا مجرب ترین عمل	172
انشاءاللہ شادی ضرور ہوگی	164		
جلد شادی ہو مجرب	165		

رشتے کیلئے مجرب عمل	165		
نکاح ہو جائے	166		
سحر کی وجہ سے شادی نہ ہوتی ہو	166		
رشتوں کا پیغام آئے	167		
پیغام نکاح	167		
شادی ہو	167		

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ پاکستان

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ پاکستان کے قیام کا مقصد روحانی علوم وفنون کی تحقیقات وتعلیمات اور اشاعت ہے تاکہ اسلاف کا یہ عظیم ورثہ ضائع ہونے سے بچایا جاسکے یہاں روحانی علوم وفنون سینوں میں دفن رہتے ہیں، علاوہ ازیں قومی سرمایہ اتنا مختصر ہے کہ ساری عمر ورق گردانی کے باوجود بھی حرف بہ حرف پر ذہن ٹھوکریں کھاتا ہے، ان حالات میں لازماً ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ علم اور صاحب علم دونوں معدوم ہو جاتے ہیں۔ عوام روحانی علم سے بدظن اور خواص سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں یہ وہی دور ہمیں نصیب ہو رہا ہے، پاکستان میں سرکاری سرپرستی تو ان علوم وفنون کی بالکل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ طور پر ایسا جامع ادارہ وجود میں آیا ہے جو تشنگان فن کی طلب کو پورا کر سکے ، پرائیویٹ طور پر اب صاحب حیثیت اور دلچسپی لینے والے بھی نہیں ہیں، جو طالب علم کی مدد کریں اس طرح متلاشیان روحانیت علم کی تلاش میں عمر بھر سرگرداں رہتے ہیں، انفرادی طور پر کوئی شخص اس لئے کامیاب نہیں ہوتا کہ رہبری کرنیوالا نہیں ملتا، پاکستان میں ایک عرصے سے ایسے ادارے کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی لہٰذا ”ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ پاکستان“ ان علوم وفنون کو متعارف کرانے اور ان علوم کو مادی علوم

کے مقابلہ میں لانے اور اس فن کا بلند پایہ مقام کو واضح کرنے، نیز صدیوں سے سربستہ علوم و فنون کی تعلیمات واشاعت اور فن کی بے لوث خدمت کیلئے ان علوم کی اشاعت کا آغاز کر چکا ہے، ادارہ کی ممبر شپ کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا جارہا ہے آپ بھی ادارہ کی ممبر شپ اختیار کر کے مخفی، طلسماتی، فلکیاتی اور روحانی علوم کی تکمیل وترقی اور اشاعت کیلئے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔

ماہر مخفی فلکیاتی علوم، میاں عزیز الرحمن نظامی (نمائندہ جنگ)

صدر ’’ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ نزد مدنی مسجد سرکلر روڈ میلسی شریف‘‘

ممبر شپ فارم

فارم نمبر.......... تاریخ:............

مکمل نام:...................................

والد کا نام:.................... والدہ کا نام:....................

تاریخ پیدائش: عیسوی.................. قمری..................

تعلیمی قابلیت :..................................

پیشہ............ مشاغل............ قوم............

مکمل ایڈریس :..................................

....

رابطہ نمبر............ شناختی کارڈ نمبر............

قبل ازیں کن حضرات/ادارہ سے سلسلہ روحانیت کا سبق حاصل کیا ہے؟۔

....

کتنے عرصہ سے روحانیت سے وابستہ ہیں :..................

کون کون سے سلاسل میں اجازت وبیعت حاصل ہے؟..........

حلف نامہ

....

...................................دستخط/نشان انگوٹھا............

دفتری کاروائی

فارم نمبر.........نام.......................کی ممبرشپ منظور/مسترد ہے۔

تاریخ:..................

عرض ناشر

از ''مؤلف'' عملیات سروری نظامیہ فقیر محمد بلال نظامی نقشبندی چشتی سروری قادری

محترم قارئین کرام.........السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

انسان علم کے بغیر حیوان کی طرح ہوتا ہے، ہر حیوان کو نہ حال سے واسطہ ہوتا ہے، نہ اسے مستقبل کی تجویز کی فکر نہ اسے ماضی کا احساس ہوتا ہے، علم کے بغیر انسان بھی ناعاقبت اندیش ہوتا ہے، اور موت کے بعد خالی برتن کی طرح ہوتا ہے اس وقت برتن میں نہ کوئی چیز (عمل) ڈالی جا سکتی ہے اور نہ اس سے کچھ نکل سکتا ہے، وہ روحانیت کی دنیا میں ایسے شخص کی طرح خالی ہاتھ ہو جاتا ہے جو بیرون ملک دولت کمانے کیلئے گیا ہو اور کافی عرصہ گزارنے کے بعد خالی ہاتھ واپس آجائے دنیا میں انسان کو اچھے اعمال کی دولت کمانے کیلئے بھیجا گیا ہے جو روحانی دنیا میں ہمیشہ کام آتی ہے، اور ختم نہیں ہوتی، بے علم انسان موت کے وقت ایسے ہی پچھتاتا ہے جیسے وہ اپنی زندگی میں بہت اچھے مواقع کھو چکا ہو مگر اب گزرا وقت کسی قیمت پر واپس نہیں آسکتا پھر بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ ''اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت''، ہر انسان کے اندر دو قسم کا علم پایا جاتا ہے ایک روحانی علم اور دوسرا فنی علم، فنی علم میں زندگی کے مختلف شعبوں کا تعلق ہے، اسی طرح ہر علم کا

حصول محنت، لگن تجربہ سے متعلق ہے علم کے میدان میں دو انسانون کا واسطہ پڑتا ہے ایک صاحب علم اور دوسرا طالب علم۔ صاحب علم کے پاس علم ہوتا ہے اور طالب علم کے پاس علم کی طلب ہوتی ہے ہر صاحب علم زندگی کی دشوار گھاٹیوں سے گزر کر صاحب علم بنتا ہے، زندگی کی دشوار گھاٹیاں۔ محنت لگن، ادب و احترام، فرمانبرداری اور خدمت گزاری سے عبور ہوتی ہیں، اس کے بعد روحانی یا فنی علم کے مطلوبہ مقام پر پہنچا جاتا ہے، طالب علم کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد یا روحانی رہبر کی ہر آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرے، اس کے بعد ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، فرمانبرداری کو اپنا شعار بنا کر اتنا قریب ہو جائے کہ استاد خوش ہو کر اپنے سینے کے راز افشاء کرنے لگے، ہر صاحب علم کے اندر دوسرے شخص کو علم منتقل کرنے کا ایک معیار ہوتا ہے کسی نے حصول رقم کا معیار بنایا ہوتا ہے کسی کا کسی کے پاس ادب و احترام اور فرمانبرداری کا معیار اور کسی کے پاس وقت کا معیار ہے کہ شاگرد سے دو چار سال خدمت کراتا ہے کسی نے راز کے بدلے راز کا معیار بنایا ہے جب شاگرد اپنے استاد کے معیار پر پورا اترتا ہے تو استاد اپنے سینے کے رازوں سے روشناس کر دیتا ہے، جو شاگرد ذہین فطین ہوتا ہے وہ اپنی عقل مندی اور فراست سے اپنے استاد محترم کی ایسی خدمت کرتا ہے جس سے استاد کے سینے کے راز خود بخود باہر آجاتے ہیں اس طرح شاگرد اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، ہم نے ”عملیات سرور“ میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بے شمار خفیہ اسرار کی چابی آپ کے ہاتھ میں دے کر ان رازوں کو آشکارا کر دیا ہے، افشائے راز کے بھید سے استفادہ کرنا اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان علوم مخفیہ سے خیر کا کام لیتے ہیں یا شر کا، علوم کوئی بھی ہوں مخفی نہیں ہوا کرتے، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے جن علوم پر صدیوں سے گرد جمی ہوئی تھی اور عام لوگوں کے ساتھ خواص کو بھی ان علوم تک رسائی نہ تھی، آج آپ اس علمی خزانے کے وارث بن رہے ہیں علم و فن میں کمال حاصل کرنے کیلئے کسی ماہر استاد کی شاگردی لینا

ضروری ہے جیسا کہ دنیا میں تمام علوم وفنون استاد اور رہبر کے بغیر نہیں سیکھے جا سکتے اسی طرح روحانی اور مخفی علوم بھی کامل رہبر کی رہنمائی کے بغیر نہیں سیکھے جاتے، اس لئے ضروری ہے کہ ’’عملیات سرور‘‘ سے فیض یابی کیلئے پہلے کسی عامل کامل کی شاگردی اختیار کریں ورنہ سخت رجعت میں گرفتار ہو جائیں گے،

خیر اندیش:

فقیر محمد بلال نظامی نقشبندی چشتی سروری قادری

نزد مدنی مسجد سرکلر روڈ میلسی شریف

حالات زندگی

مجذوب فطرت، مرشد کامل، فنافی اللہ، پیر طریقت، شیخ حقیقت،

حضرت مولانا فقیر کامل غلام سرور صاحب نور اللہ مرقدہ

از مفتی مبشر احمد بشری نظامی استاذ الحدیث والتفسیر جامعہ دار العلوم الاسلامیہ لاہور

☆...☆...☆...☆...☆...☆...☆...☆...☆...☆...☆

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، عزیزان مکرم

میلسی شہر میں کچھ ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جو فنا فی الرسول ﷺ منزل سے گزر کر فنا فی اللہ کا راز پانے والی تھیں، جنہوں نے میلسی شہر میں قلوب انسانی کو محبت الٰہی و عشق نبوی سے گرمایا اور انہیں سنت رسول ﷺ جامہ پہنایا، بلاشبہ سینکڑوں لوگ انکے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے رہے، جنکی شاہین کی طرح پرواز ہر آن بلند سے بلند ہوتی چلی گئی، اور بڑے بڑے علماء وحفاظ اور فقراء ان کے علمی چشمہ سے سیراب ہوتے اور روحانی بئیر سے آتش عشق سرد کرتے رہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی اور ایک شخصیت جس نے اپنی زندگی خدمت انسانیت کیلئے صرف کر ڈالی یہ روہنگیا (عرف جٹ رونگھا) قوم

کے سربراہ، صوفی باصفا، فقیر کامل، مجذوب فطرت، پیر طریقت، شیخ حقیقت، حضرت مولانا غلام سرور بن مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ بن مولانا محمد عیسٰی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات تھی، جنکے متعلق ایک شاعر یوں تاثرات قلب ذکر کرتا ہے۔

لطافت غم جان سما گئی دل میں
نزاکت دل عاشق کو پالیا میں نے

تحصیل میلسی کا مقام:

تحصیل میلسی... جہاں صدق وصفا کے پیمانے چھلکتے ہیں۔

تحصیل میلسی... جس کے دریا تقویٰ وللّٰہیت کے نورانی پیکر تراشے جاتے ہیں۔

تحصیل میلسی... جس کی گود میں علم کے دیوانوں اور فکر کے سودایوں کی پرورش ہوتی ہے۔

تحصیل میلسی... جس کی سرزمین اہل کمال کو سینے سے لگاتی اور پیشانی کو بوسہ دیتی ہے

تحصیل میلسی... جس کے صحن میں دیانت وامانت کا اجالا ہے۔

تحصیل میلسی... جس کے در ودیوار پر نورانیت کی بارش ہوتی ہے۔

تحصیل میلسی... جو تقدس وپاکیزگی اور رشد وہدایت کی سرزمین ہے۔

تحصیل میلسی مادی ترقی کے اعتبار سے ضلع وہاڑی کا ایک مردم خیز قصبہ ہے اور روحانی اعتبار سے جرأت، شجاعت، غیرت، حمیت، ومہمان نوازی کے وسیع تر پس منظر کا حامل شہر ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ خدا رسیدہ انسانوں اور زہد وتقویٰ کا مرکز ومسکن ہے۔

یہ ریگ اور ہدایت کے سلسلے
صدیوں رکے رہے یہاں محبت کے قافلے

بہر حال تحصیل میلسی کی مٹی ہیروں کا پالا ہے جہاں جامعہ تعلیم القرآن جامعہ مصباح العلوم جامعہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے مدارس ومراکز علمی نے رشد وہدایت ودرس وتدریس کے معمار پیدا کئے، جہاں جامع مسجد مدنی، جامع مسجد مائی والی، جامع مسجد تحصیل والی، جامع مسجد مکی،

جامع مسجد بہادر خان والی اور جامع مسجد رحمانیہ والی کے منبر ومحراب سے حق کا علم بلند ہوتا رہا اور وعظ ونصیحت کے موتی بکھیرے جاتے ہیں۔۔ میلسی شہر بار بار کہہ رہا ہے۔

ہیں فن مجھ میں کتنی رونقیں مت پوچھ
ابھرا ابھر کے جو بستا رہا، وہ شہر ہوں میں

اسی شہر میں ہمارے حضرت موصوف، مجذوب فطرت، فقیر کامل مولانا غلام سرور صاحب پلے اور پڑھے اور ہر میدان کے شہسوار بنے۔

راستے کھلتے گئے عزم سفر کے سامنے
منزلیں ہی منزلیں ہیں اب نظر کے سامنے
خودبخود کھلتے چلے جاتے ہین راز حسن وعشق
اہل دل، اہل جنون، اہل نظر کے سامنے

مجذوب فطرت، فقیر کامل حضرت موصوف کی پوری زندگی للہیت ورضائے الٰہی کیلئے صرف ہوئی ناموری، شہرت کیلئے نہیں، بہت کیا کام مگر رہے ہے گمنام،

مجھے فطرتاً ملا ہے یہی ذوق زندگی . . . ☆ . . . نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے دوستانہ

پیر غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان : آپ کے خاندان کا تعلق قوم روہنگیا (عرف جٹ روہنگھا) خاندان سے ہے جسکے متعلق مفتی کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبیلہ دراصل یمن کے قبیلہ سے چلا ہے وہاں سے ہجرت کر کے میانمار برما میں آیا، اور اس قبیلہ کی حکمرانی رہی، پھر وہاں سے بنگلہ دیش سے ہوتا ہوا بلوچستان، ڈیرہ غازیخان اور ملتان کے مضافات میں تقسیم ہوا، اس خاندان سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر گبیر والہ اور جلالپور اور تحصیل میلسی، بہاولپور میں آباد ہیں۔ راقم الحروف مفتی مبشر احمد بشری کا تعلق بھی چونکہ اسی خاندان سے ہے (جو حضرت موصوف کا بھانجا ہے) جب حالات تحریر کرنے لگا تو خیال آیا

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

اے بشریٰ! اپنے دل پر شوق کی باتیں
اچھا ہے کہ اپنی زبان ہی سے سنائیے
ممکن ہے کوئی کاشف اسرار محبت
پھر محفل احباب میں آئے کہ نہ آئے

☆... حضرت موصوف کے والد گرامی مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ

حضرت موصوف فقیر کامل غلام سرورؒ صاحب کے والد گرامی مولانا خدا بخشؒ جو اس خاندان کے جد امجد ہیں، بہت بڑے عالم اور زاہد، شب بیدار آدمی تھے، پوری زندگی خدمت دین و خدمت انسانیت کیلئے وقف کر رکھی تھی، انکے دوسرے بھائی مولانا دُر محمد تھے، وہ بھی میلسی شہر کے رکن رکین تھے ایک نامور شخصیت تھے، مگر انکی اولاد میں کوئی عالم فاضل نہ بن سکا، مولانا خدا بخش بن مولانا محمد عیسیٰ کے دو بیٹے تھے ایک فقیر کامل مولانا غلام سرور صاحب، دوسرے مولانا غلام احمد صاحب۔ فقیر کامل مولانا غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاولد تھے، مولانا غلام احمد کے دو بیٹے ہیں ایک میاں عزیز الرحمن جو صحافت سے وابستہ ہیں، روزنامہ جنگ کے نمائندہ ہیں، دوسرے مولانا سعید احمد سعدی صاحب، جو حال ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے درس نظامی پڑھا ہوا تھا، مرتب کتاب عملیات میاں عزیز الرحمن صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، جو حضرت موصوف کے پوتے لگتے ہیں۔ مولانا خدا بخشؒ صاحب کرامت شخص تھے، انکے پاس جن بھی قرآن مجید پڑھتے تھے، راقم الحروف کی والدہ مرحومہ نے واقعہ سنایا کہ رات کے ایک بجے ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اسکے کان میں اذان دینی ہے، تو حضرت مولانا خدا بخشؒ اسکے ساتھ چلے گئے وہ ایک جنگل میں آپ کو لے گیا، ایک جھونپڑی میں اذان دی تو اسی آدمی نے کوئلوں کا ٹوکرہ بھر کر انعام میں دیا، مولانا صاحب نے کہا کہ میں کوئلوں کو کیا کروں گا، وہ راستے میں پھینک دیے، ایک کوئلہ ٹوکرے میں بچ گیا جب صبح دیکھا تو وہ سونے کا ٹکڑا تھا، مولانا نے بہت

افسوس کیا فوراً اس جگہ گئے جہاں کوئلے پھینکے تھے، تو وہ نہ ملے مولانا نے فرمایا جو آدمی مجھے لے گیا تھا وہ جن تھا۔

دوسرا واقعہ:۔ جب مولانا خدا بخش صاحب رحلت فرما گئے تو تقریباً دس بارہ سال بعد پیر صاحب کو خواب میں آئے کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے اس کو نکالو، فقیر کامل مولانا غلام سرور صاحب اور دیگر احباب نے قبر کو کھودا تو پانی نکالا، مولانا خدا بخش کی میت بالکل صحیح سالم کفن بھی صحیح سالم تھا، جیسے آج ہی دفن ہوئے، یہ پانی فدہ نہر مین شگاف پڑنے سے قبر ستان میں آ گیا تھا۔

مکاتب فکر:۔ میلسی شہر میں دو مکاتب فکر زیادہ ہیں ایک دو بند مکتبہ فکر، دوسرا بریلوی مکتبہ فکر، ان دونوں کی بنیاد یہاں جٹ رونگھا خاندان ہیں، مولانا خدا بخش صاحب کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے تھا اور غیر متعصب معتدل المزاج آدمی تھے، انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی اس شخص کو دوں گا جو شرح جامی اور مختصر المعانی پڑھا ہوا ہو گا تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی مولانا حکیم محمد عبدالصمد نظامی کو نکاح میں دی، جو دیو بند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے جو راقم الحروف کے والد گرامی ہیں، مرتب کتاب نانا جان ہیں۔

دوسرا مکتبہ فکر:۔ دوسرا مکتبہ فکر دیو بند کا ہے جس کی بنیاد فقیر کامل مفتی کلیم اللہ بن مولانا دین محمد بن مولانا شیر محمدؒ ہیں جو مولانا محمد بخش فاضل دیو بند اور مولانا خیر محمد جالندھری مہتمم جامعہ خیر المدارس ملتان کے شاگرد خاص تھے، مولانا دین محمد کے پانچ بیٹے تھے، ایک مولانا عبدالصمد، دوسرا مولانا ابو الوفا عبدالواحد عابد، تیسرا فقیر کامل مفتی کلیم اللہ، چوتھا فقیر کامل پیر مولانا محمد امان اللہ نقشبندی، پانچواں ڈاکٹر محمد لطف اللہ صاحب۔ یہ خانوادہ مرتب کتاب عملیات کا ننھیال خاندان ہے۔ اور مولانا خدا بخش صاحب دادھیالی خاندان ہے اس خاندان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ۔

یا میرا تذکرہ ہر شخص ہی کرے

ورنہ پھر مجھ سے گفتگو ہی نہ کرے
مجھ سے پسی ہے اگر کوئی چیز
تو پھر کسی اور کی جستجو ہی نہ کرے

یہ ہے وہ میر کارواں جنکی زندگی فرشتوں کی زندگی تھی، جنکی پیشانیاں سیماھم فی وجوھھم کا نقشہ تھیں، یہ ذی شعور لوگ تھے جن کا کام اور نام قیامت تک زندہ رہیگا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔

مولانا خدا بخشؒ آخری نماز صبح پڑھا کر مسجد رحمانیہ کی سیڑھیوں سے پھسلے اور انکی ٹانگ ٹوٹ گئی اور کافی مدت صاحب فراش رہ کر رحلت فرما گئے۔ رحلت سے قبل آپ نے اپنی بہو کو قرآن کی تلاوت سنائی، کلمہ سنایا اور کہا کہ میرے گواہ ہو جاؤ ابھی یہ بات مکمل ہوئی تھی تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمام دور ہٹ جائیے اور درود شریف پڑھنا شروع کردو، کیونکہ آقا حضور محمد ﷺ تشریف لے آئے ہیں آپ نے کھڑے ہو کر آپ ﷺ کا استقبال کیا، مصافحہ اور بغل گیر ہوئے اور الٹے پاؤں واپس اپنے بستر آ گئے، اس وقت آپ کی دائیں ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، جو خود بخود جڑ گئی، اس سے قبل بھی مولانا خدا بخش صاحب کو تحصیل والی مسجد میں آقا ﷺ دیدار ہوا تھا، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ کر اپنی جان جانِ آفرین کے سپرد کردی۔ مولانا خدا بخشؒ کی پڑپوتی میاں عزیز الرحمن نمائندہ جنگ کی دختر مہمونہ کی ۲۵ سال بعد قبر بارش کی وجہ سے گر گئی تھی جس کا جسم اور کفن صحیح سلامت تھا، فالحمدللہ،

مفتی محمد کلیم اللہؒ بھی بوجہ شوگر مریض ہوئے اور کافی مدت صاحب فراش رہ کر انتقال فرما گئے اور میلسی شہر کو سونا کر گئے، ہم ان کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں

کارواں سے کیسے کیسے لوگ رخصت ہو گئے
کچھ فرشتے چل رہے تھے جیسے انسانوں کے ساتھ

زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی ہے
ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔

انکے کے بغیر بہاریں نابود ہیں، وہ شوخیاں ختم ہیں، وہ کیف وسرور مفقود ہیں جو افق عالم کو ہمیشہ پرنور رکھتا تھا۔

جو بہار ملتی ہے تو پوچھتا ہوں وہ کیف وسرور کدھر گیا
وہ صبا کی شوخیاں کیا ہوئیں، وہ چمن کا حسن کدھر گیا

فقیر کامل مولانا غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کی صفات:۔ مجذوب فطرت، پیر طریقت، فقیر کامل مولانا غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے گونا گوں صفات سے نوازا ہوا تھا، آپ گمنامی پسند کرتے تھے متواضع اور منکسر المزاج عالم باعمل فقیر کامل تھے عارف باللہ مصلح امت عاشق رسول ﷺ محب صحابہ کرام و اولیاء اللہ تھے اور ہر مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کرتے تھے، آپ کا سلسلہ سروری قادری تھا حضرت سلطان باہو نے آپ کی باطنی تربیت کی تھی اور باطنی خلافت بھی عطاء فرمائی، حتیٰ کہ اہل تشیع کے ساتھ بھی رواداری کرتے تھے، صابر وشاکر قانع چھوٹوں پر شفقت کرتے خاص کر راقم الحروف مبشر احمد پر خاص نظر شفقت کرتے اور فرماتے اپنے خاندان میں میں تجھ سے زیادہ امید رکھتا ہوں کہ تم ہمارے مشن کو زندہ رکھو گے۔

نہ جانے کس ادا سے میری جانب اس نے دیکھا تھا
ابھی تک دل میں تاثیر نظر محسوس کرتا ہوں

آپ کی سادگی:۔ حدیث پاک میں کہ مومن سیدھا سادہ شریف آدمی ہوتا ہے اور گناہگار دھوکہ باز کمینہ ہوتا ہے، مولانا موصوف اس حدیث کے عین مصداق تھے، بالکل سادہ لباس کرتہ، چادر اور سر پر پگڑی پہنتے تھے وضع قطع عین سنت کے مطابق تھی۔ آپ کی

سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ہمعصر ساتھی آپ سے بہت دل لگی کرتے اور مزاح کرتے، آپ کو ناک میں نسوار ڈالنے کی عادت تھی جو کہ دائمی نزلہ زکام کا علاج ہے، تو آپ کے ساتھی وہ نسوار کی ڈبیہ چھپا لیتے تھے، اور کہتے مٹھائی کھلاؤ تب ہم دیں گے، مگر آپ مسکراتے رہتے اور کبھی کسی پر غصہ نہ ہوتے تھے، آپ جس محفل میں ہوتے وہ محفل لالہ زار بن جاتی تھی،

کانٹوں میں ہے گھرا ہوا چاروں طرف سے پھول
پھر بھی کھلا ہی رہتا ہے کیا خوش مزاج ہے۔

فقیر کامل صاحب موصوف صورت، سیرت، چال، ڈھال رفتا، گفتار، وضع قطع، نشست برخاست، اور قال وحال میں پیغام دے گئے۔

جینے کا قصد ہے تو سکون کی نہ کر تلاش
یہ زندگی کشاکش پیہم کا نام ہے
نظریں بلند ہوں تو زمیں بھی ہے آسماں
سمع قبول ہو تو خاموشی پیام ہے۔

حضرت موصوف قرآن مجید کی آیت ”قل ان صلاتی ونسکی ومحیا ی ومماتی للہ رب العالمین“ کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور کہتے تھے حق کی خاطر مرجاؤں گا مگر کسی باطل کے سامنے جھکوں گا نہیں، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔

دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز
میں جانتا ہوں، موت ہے سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پڑھنے پڑھانے کا شوق :۔ حضرت موصوف ہر وقت مطالعہ کتب میں مصروف رہتے تھے، زیادہ وقت پڑھنے پڑھانے میں گزارتے، بے شمار طلباء آپ سے علمی پیاس بجھاتے

رہتے، جس آدمی سے بھی ملاقات ہوئی وہ یہی کہتا کہ میں فقیر کامل مولانا غلام سرور کا شاگرد ہوں۔ آپ فارسی و عربی کے بہت ماہر تھے، مثنوی شریف بوستان گلستان آپ کو یاد تھیں، آپ کا کتب خانہ بہت وسیع تھا، ہر فن کی کتاب آپ کے کتب خانہ میں موجود تھی، تفسیر حدیث، فقہ اصول فقہ اور انکی شروحات عربی فارسی سب آپ کے پاس موجود تھیں، جو کتاب دیکھتے خرید لیتے تھے مگر آپ کسی کو اپنی کتاب کو ہاتھ نہ لگانے دیتے اور فرماتے یہ کتابیں میری روح ہیں ایک بھی گم ہوگئی تو میری روح نکل جائیگی اور کہا کرتے تھے

اک یہی آس ہی کافی ہے میرے جینے میں
دل نہیں، کتاب دھڑکتی ہے میرے سینے میں

آپ کو وہ ضخیم کتب خانہ آپ کی رحلت کے ساتھ ہی رحلت کر گیا آپ کے بعد میں نے ایک کتاب بھی نہ دیکھی شاید وہ کتب خانہ کوئی انسا جن یا فرشتہ صفت انسان غائب کر گیا صرف یہی ایک کتاب وظائف و عملیات سرور بڑی مشکل کے بعد سامنے آئی ہے۔ جو فقیر محمد بلال نظامی نے مرتب کی ہے۔

نہ ہی وہ شیخ رہے، نہ ہی وہ کتب خانہ
انکے بعد نہ مل سکی کوئی نظر مستانہ
جب پوچھتا ہوں یہ راز ان کے وارثوں سے
دیا نہ کسی نے کوئی جواب مخلصانہ

امام العیدین کا لقب :۔ میلسی شہر میں تمام مکاتب فکر اہلسنت دیوبند، اہلسنت بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع سب آپ پر اعتماد کرتے اور احترام کرتے تھے، کیونکہ آپ محبت کا واعظ کرتے تھے، نفرت کا نہیں جوڑ کا وعظ کرتے تھے توڑ کا نہیں، فکر آخرت کا وعظ کرتے تھے فکر دنیا کا نہیں، آپ کا خاندان پاکستان بننے سے قبل بھی میلسی میں آباد تھا اور دینی خدمات سرانجام دے رہا تھا جامع مسجد تحصیل والی میلسی شہر کے وسط

میں ہے آپ نے پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں تیس سال امامت وخطابت کی، جامع مسجد بہادر خان، جامع مسجد مکوڑوں والی، جامع مسجد رحمانیہ میں بھی امام رہے، اور میلسی شہر کی مرکزی عیدگاہ میں پہلے آپ کے والد محترم مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ عیدین کی نماز پڑھاتے تھے، انکی وفات کے بعد دیوبندی و بریلوی مکتبہ فکر میں تنازع پیدا ہو گیا کہ ہم عیدین کی نماز پڑھائیں گے، آپ میں لڑائی تک معاملہ پہنچ گیا تو تھانہ صدر میلسی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا پہلے جو خاندان عیدین کی نماز پڑھاتے رہے یہ ذمہ داری اسی خاندان کو سونپی جاتی ہے اس پر سب نے اتفاق کیا اور فقیر کامل مولانا غلام سرور صاحب کو امام العیدین مقرر کر دیا گیا، انتظامیہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا کہ ہمیشہ کیلئے عیدین کی نماز یہی خاندان پڑھائے گا، تو فقیر کامل مولانا غلام سرور صاحب تاحیات امام العیدین رہے، انکے بعد مولانا غلام احمد، جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے یہ منصب سنبھالا، انکے بعد انکے بیٹے فقیر کامل مولانا سعید احمد سعدی نے، اب اس سال میں وہ وفات پا چکے ہیں، اور سعدی صاحب کے بڑے بیٹے فقیر مولانا خالد محمود امام العیدین بنیں ہیں

فقیر محمد بلال کا تعارف فقیر محمد بلال نظامی نجیب الطرفین ہے، اسکے دادھیال اور ننھیال دونوں طرف ساتوں پشت علماء صلحاء اتقیاء حکماء شخصیت ہیں۔ جو اپنے اپنے دور کے عابدین وزاہدین طبقہ تھے، اور عملیات کے ماہر تھے، اور مرجع خلائق تھے، اور ابھی تک وہ سلسلہ دونوں اطراف میں چل رہا ہے، مستورات میں محمد بلال نظامی کی والدہ محترمہ زوجہ میاں عزیز الرحمن اور انکی پھوپھی زوجہ مولوی محمد مطیع الصمد عملیات اور وظائف بتاتی ہیں، اور مردوں میں فقیر محمد بلال نظامی عملیات اور وظائف بتاتے ہیں، اور ہر قسم کا جسمانی و روحانی علاج کرتے ہیں، خاص کر آسیب، سحر، بندش کاروبار، نکاح و شادی کا کامیاب علاج کرتے ہیں پورے پاکستان کے لوگ انکے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے اپنے مقصد میں وظائف حاصل کر کے کامیاب ہوتے ہیں۔

پیر طریقت، فقیر کامل مولانا غلام سرورؒ کے دو سلسلے تھے ایک امامت کا، وہ فقیر مولانا سعید احمد سعدی نے سنبھالا اور دوسرا عملیات کا سلسلہ، جسے فقیر محمد بلال نظامی نے سنبھالا۔ فقیر کامل مولانا غلام سرور صاحب بلال نظامی کے منہ میں اپنی زبان دیا کرتے تھے، اور جو سنے کو کہتے یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ میری جائیداد کا وارث ہے ان کی جائیداد فقیری لائن تھی، جو آج فقیر بلال نظامی کے پاس موجود ہے۔ فقیر محمد بلال نظامی اسم ذات، سورۃ کوثر، سورۃ مزمل، اسماء برھتیہ، سلام قول من رب رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دعا سیفی کے بھی عامل خاص ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

ذی حشم ذی وقار ہیں ہم لوگ
قوم کا افتخار ہیں ہم لوگ
مثل شمس تھے ہم بھی کہ جب غروب ہوئے
تو بے شمار ستاروں کو جگ مگا کے چلے

میلسی کا قبرستان:۔ وہ قبرستان جس میں فقیر کامل حضرت مولانا غلام سرورؒ صاحب مدفون ہے وہ بہت وسیع رقبہ پر محیط ہے اصلی وجہ شہرت نامور شخصیات کی قبریں ہیں خاص کر پیر بابا ننھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے اور سینکڑوں سال بوڑھے درخت ہیں خاص کر پیلوں اور کیکر کے درخت، اور اس میں مدفون جید علماء وفضلاء، حفاظ وقراء اور شہدا آرام فرما رہے ہیں۔

چپے چپے پہ ہے یہاں گوہر یکتا تہہ خاک
دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز

منوں مٹی کے نیچے وہ لوگ بھی دفن ہیں جنکی ناز برداریاں محبوبوں کی طرح تھیں، جیسے احمد یار خان کھچی، محمد یار خان کھچی، دلاور خان کھچی، انکے علاوہ رئیس، سردار، چوہدری، ملک، جو اپنی

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد ... تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

زندگی میں شاہانہ کروفر اور سخت گیری میں مشہور تھے آج وہ آلودہ خاک ہیں۔ اور اسی قبرستان میں روہنگیاں (جٹ رونگھا) خاندان کے آباؤ واجداد جیسے مولانا خدا بخشؒ، زبدۃ الحکماء حضرت مولانا محمد عبدالصمدؒ، حضرت مولانا غلام احمدؒ، پیر طریقت حضرت محمد امان اللہ نقشبندیؒ، فقیر کامل مولانا سعید احمد سعدیؒ آرام فرما رہے ہیں۔

نہیں معلوم یہ شہر خموشاں کیسی بستی ہے
جہاں پر رات دن رحمت مولیٰ برستی ہے

آہ ہمارا غم:۔ یہ بڑی بڑی نامور ہستیاں دار فانی سے دار بقا کو رحلت کر گئیں جن جن گھروں میں رہتے تھے وہ سورج کی طرح علمی، دینی سیاسی کرنیں بکھیر تے تھے انکے جانے کے بعد ہم جب ان گھروں کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے نڈھال ہو کر رو پڑتے ہیں آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات لگ جاتی ہے ٹپ ٹپ بارش برستی ہے۔

تا دیر ہم بہ دیدۂ تر دیکھتے رہے
یادیں تھیں جس میں دفن وہ گھر دیکھتے رہے۔

آہ کیا کیا علوم کے گنجینے ہم نے منوں مٹی کے نیچے دبا دیئے ذرہ بھی ترس نہ آیا کہ یہ قیمتی ہیرے اور جواہر علمی اور مذہبی متاع ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں، کسی غم سے بھرے دل سے یہ آواز تو آئی ہو گی۔

مٹی میں کیا سمجھ کے دباتے ہو دوستو
گنجینہ علوم ہے یہ گنج زر نہیں

میں تو انکے کام اور مشن کو زندہ دیکھ کر کہا کرتا ہوں۔۔

تیری جدائی پہ مرنے والے وہ کون ہے جو حزیں نہیں

مگر مجھے تیری مرگ نا کہاں کا ابھی تک یقین نہیں

بندہ کی دعا ہے کہ ہم سب اخلاف کو ان اسلاف کے مشن کو زندہ رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنائے۔

مرقد پہ تیری رحمت حق کا نزول ہو
حامی تیرا خدا ہو اور خدا کا رسول ہو

(آمین یارب العالمین)

الراقم: مفتی مبشر احمد بشری نظامی

مدرس جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ اقبال ٹاؤن لاہور

ازمورخہ 20 شعبان المعظم 1436 ہجری، بمطابق 7 جون 2015 عیسوی۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

باب اول

"دعا برہتیہ"

عبرانی سریانی کی مشہور ومعروف دعا برہتیہ میں امام ابی العباس، استاد البرنی سید عبدالفتاح حضرۃ مولانا مفتی محمد کلیم اللہؒ، مولانا خدا بخشؒ نے 25 اسماء تحریر کئے ہیں جبکہ مولانا عبدالقادر، علامہ محی الدین ابن عربی اور امام بونی نے دعوت برہتیہ کے اٹھائیس اسماء کا اپنی تصنیف میں ذکر کیا ہے، جبکہ مولانا غلام سرور بھی اٹھائیس اسماء کو ہی لیتے ہیں جو حروف ابجد اور منازل قمری سے منسوب ہیں ہر اسم کے بے شمار خواص اور افعال ہیں اس وقت تک کوئی عامل، عامل کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دعا برہتیہ کی ریاضت نہ

کرے یہ ایک ایسی عظیم دعوت ہے جسے زمانہ قدیم کے حکماء نے دو دھاری تلوار کے نام سے بھی موسوم کیا ہے، بلکہ یہ ایک خاص الخاص اسم ہے اس دعا میں ذرہ بھر بھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی پھر ان کے جانشین حضرت آصف بن برخیا کو امانت اور وراثت نبوت کے طور پر ملی ، اس طرح مختلف اکابرین کے پاس یہ دعا پہنچی ، عہد قدیم کے تمام عاملین و کاملین اس دعا سے خوب کام لیتے تھے جب بھی کوئی عمل کرتے نقش بناتے تو اس دعا کو پڑھ کر دم کر دیتے ، بنائے گئے نقوش اس طرح کام کرتے تھے جیسے آنکھ جھپکنے سے پہلے، ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمانؑ کے پاس حاضر ہوا، اس دعا ہی کی بدولت سے تمام جنات تابعداری کرتے تھے، یہ دعا تمام نقوش و زکوٰۃ میں عامل کا ساتھ دیتی ہے، میں نے خود بھی اکثر اپنے بنائے گئے نقوش پر اس دعا کو پڑھ کر دم کیا اور مجھ کو فوراً رزلٹ ملا جب سے فقیر کامل غلام سرور کے حکم سے میں نے اس دعا کی ریاضت شروع کی اس دن سے میرے تمام عملیات میں اثر بڑھتی چلی گئی یہ ایک ایسا راز ہے جو اکثر بڑے عامل بیان نہیں کرتے بلکہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر کے قبروں میں چلے گئے اور کسی کو اس دعا کے بارے میں نہیں بتلایا اکثر عامل جو مثلث کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر پھر بھی عمل تاثیر نہیں کرتا، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تسخیر برہتیہ کر لیں خواہ عمل جلالی ہو یا جمالی، اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور صاحب عمل اور دم تعویزات فوری اثر کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کا نصاب ایک ہزار تین سو پچپن مرتبہ ہے جسکے دو طریقے ہیں ہر دو طریق جائز اور صحیح ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز پندرہ پندرہ مرتبہ یا نو مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھے حتیٰ کہ حد نصاب ختم ہو جائے ، دوسرا طریقہ ہے کہ پندرہ دنوں تک ہر روز 90 مرتبہ پڑھے اور آخری دن پچانوے مرتبہ پڑھے، تا کہ حد نصاب ختم ہو جائے دوران نصاب شرائط یہ ہیں کہ روزہ دار رہے، گوشہ نشینی اختیار کرے ہم یہ بھی بیان

کر دیں کہ ہر عامل کا علم دعا برہتیہ کے بغیر ادھورا ہے بلکہ اس عامل کو بغیر دم کا سمجھا جاتا ہے، اس دعا کے عامل کے حکم سے کوئی موکل، جنات، عفریت، سرکش اور شیاطین نافرمانی نہیں کر سکتے، اور کسی عمل میں اسے ناکامی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جتنی دعائیں اور اقسام علوم روحانیہ میں ہیں اس تمام سے اس کا عامل بے پرواہ ہو جاتا ہے تمام اعمال میں اس کا عامل تصرف کر سکتا ہے، جنات و موکلات و اعوان کو حاضر کرنے اور ان سے کام لینے، چیزوں کو مخفی اور ظاہر کرنے، لوگوں کو بیمار کرنے اور شفا دینے، اعمال خیر و شر ہمہ قسم میں کلی طور پر کامیاب و کامران ہوتا ہے، افسوس ہے کہ عصر حاضر کے عاملین نے اس دعا عظیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ میں یہ کہوں گا عصر حاضر کے عاملین کاملین اس دعا برہتیہ سے ضرور فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے علوم روحانیہ و مخفیہ کی بنیاد دعا برہتیہ ہے جس نے بنیاد مضبوط کر لی اس کا علم کامل ہوا اس کا عمل تیر بہدف ہوا،

دعا برہتیہ کے ۲۸ اسماء

دعائے برہتیہ کے اٹھائیس اسماء جو روحانیت کے عظیم خزانے ہیں پیش شدہ آپ کے سامنے ہیں، درست اعراب ہر اسم کے حروف کی تعداد اور ہر حرف کے اعراب کی وضاحت کر دی گئی ہے، اب دعائے برہتیہ کے آٹھائیس اسمائے مبارکہ تحریر کرتے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) بِرْهَتِيَةٍ (۲) كَرِيْرٍ (۳) تَتْلِيْهٍ (۴) طُوْرَانٍ (۵) مَزْجَلٍ (۶)
بَزْجَلٍ (۷) تَرْقَبٍ (۸) بَرْهَشٍ (۹) غَلْمَشٍ (۱۰) خُوطِيْرٍ (۱۱)
قَلْنَهُوْدٍ (۱۲) بَرْشَانٍ (۱۳) كَظْهِيْرٍ (۱۴) نَمُوشَلَخٍ (۱۵)
بَرْهَيُوْلا (۱۶) بَشْكَيْلَخٍ (۱۷) قَزْمَزٍ (۱۸) اَنْغَلَلِيْطٍ (۱۹) قَبَرَاتٍ
(۲۰) غَيَاهَا (۲۱) كَيْدَهُوْلا (۲۲) شَمْخَاهِرٍ (۲۳) شَمْخَاهِيْرٍ

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

(۲۴) شَمْھَاھِیرٍ (۲۵) بِکَھُطَھُوْنَیۃٍ (۲۶) بَشَارِشٍ (۲۷) طُوْنَشٍ (۲۸) شَمْخَابَارُوخٍ

دعا برہتیہ عاملین کی نظر میں

دعا برہتیہ کے بارے میں قدیم عاملین و کاملین کی بہت سی باتیں ملتی ہیں جبکہ امام بونیؒ نے دعا برہتیہ کو اس طرح پڑھا اور تحریر کیا ہے آپؒ فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل شروع کرو اس دعا کے ساتھ شروع کیا کرو تا کہ عمل میں تقویت پیدا ہو جائے بعد میں نا کامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے آج کل کے اکثر عاملین اس دعا کو چھوڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں تا کہ ایسا کوئی عمل مل جائے جس سے ہمیں کامیابی و کامرانی مل جائے ایسے تمام عاملین کیلئے یہ دعا برہتیہ تحفہ ہے، حضرت بونیؒ کی نظر میں دعا برہتیہ ۔۔

بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم۔ بِرھَتِیۃٍ۔ کَرِیرٍ۔ تَتْلِیۃٍ۔ طَوُرَانٍ۔ مَزْجَلٍ۔ بَزْجَلٍ۔ تَرْقَبٍ۔ بَرْھَشٍ۔ غَلَمْشٍ۔ خُوطِیر۔ قَلْنَہُودٍ۔ بَرْشَانٍ۔ کَظْھِیرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ۔ بَرْھِیُولاً۔ بَشْکَیْلَخٍ۔ قَزْمَرٍ۔ اَنْغَلَلِیُطٍ۔ قَبَرَاتٍ۔ غَیَاھًا۔ کَیْدَھُولاً۔ شَمْخَاھِرٍ۔ شَمْخَاھِیُرٍ۔ شَمْھَاھِیرٍ۔ بِکَھُطَھُوْنَیۃٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوْنَشٍ۔ شَمْخَابَارُوخٍ۔ اَللّٰھُمَّ بِحَقِّ کَھکَھِیجٍ۔ بَغْطَشِیٍ۔ بَلْطَشَغٍ۔ شُغُوْیَلٍ۔ وَاَمُوْئِیْلٍ۔ جَلْدَمُھْجَمَا۔ حَلْمَجٍ۔ وَرُوَدِیۃٍ۔ مُھْفِیَاجٍ۔ بِعِزَّتِکَ اِلَّا مَا اَخَذْتُ سَمْعِھِمْ وَاَبْصَارِھِمْ سُبْحَانَ مِنْ لَیْسَ کَمَثْلِہٖ شِیئٍ وَھُوَالسَمِیْعُ الْبَصِیْرِ۔

حضرت آصف بن برخیا کے مطابق اسمائے برہتیہ

تمام قدیم حکماء اس روایت پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو اصل میں یہی دعا برہتیہ دی تھی، جو کہ آج تک ہمارے پاس موجود رہی ہے۔

بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم۔ بِسْمِ اللّٰہِ الْمَلِکِ الْمُحَیْطِ الْدَّائِمِ الْقَدِیْمِ الَّذِیْ مَلَاَ سَاطِعَ نُوْرِ وَجْھِہٖ الْاَکْوَانِ وَاَمَدَّھَا بِقُوَّۃٍ جَذْبَۃٍ ھَیْبَۃٍ سُلْطَانِہٖ عَلٰی کُلِّ مَلْکِ وَجِنِّی وَاِنْسِیْ وَشَیْطَانٍ فَخَافَتْہُ جَمِیْعِ مَخْلُوْقَاتِہٖ وَاَذْعَنَتْ وَتَوَاضَعَتُ الْکَرُوْ بِیُوْنَ مِنْ اَعْلٰی مَقَامَاتِھَا وَسَجَدَتْ وَاَجَابَتُ دَعْوَۃُ اِسْمَہٖ الْمُحکَمِ الْمَکْتُوْبِ فِیْ الْوَحِ قُلُوْبِ الْمُتَصِرَفِیْ نُدُوْمِ اَجْھَزَطُ عَلَیْکُمْ اَیُّھَا الْاَرْوَاحُ الرُّوْحَانِیَّۃُ الْعُلْوِیَّۃُ وَالسِّفْلِیَّۃُ رُخدَّامُ ھٰذَا الْعَھْدِ الْکَبِیْرِ اَنْ تُجِیْبُوْا دَعْوَتِیْ وَتَقْضُوْ حَاجَتِیْ وَتَتَوَکَّلُوْا (اپنی حاجت کا نام لیں) بِعِزَّۃٍ، ۔ بِرْھَتِیۃٍ۔ کَرِیْرٍ۔ تَتْلِیْہٖ۔ طُوْرَانٍ۔ مَزْجَلٍ۔ یَزْجَلٍ۔ تَرْقَبٍ۔ یَرْمَشٍ۔ غَلْمَشٍ ۔ خُوطِیر۔ قَلْنَھُوْد۔ بَرْشَان۔ کَظْھِیْرٍ۔ نَمُوْشَلَخٍ۔ بَرْھَیُوْلا۔ بَشْکَیْلَخٍ۔ قَزْمَزٍ ۔ اَنْغَلَلِیْطٍ۔ قَبَرَاتٍ ۔ غَیَاھَا۔ کَیْدَھُوْلا۔ شَمْخَاھِرٍ۔ شَمْخَاھِیْرٍ۔ شَمْھَاھِیْرٍ۔ بَکَھْطَھُوْنِیَۃٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوْنَشٍ۔ شَمْخَابَارُوْخٍ۔ بِحَقِّ ھٰذَا الْعَھْدُ الْمَاخُوْذُ عَلَیْکُمْ یَا خُدَّامُ ھٰذِہِ الْاَسْمَائِ اِلَّا مَا اَسْرَعْتَمْ اِلْاَنْقِیَائِ فِیْمَا تُوْمُرُوْنَ بِہٖ بِعِزَّۃِ الْمُعْتَزِّفِیْ عِزِّعِزِّہٖ وَاَوْفُوْ بِعَھْدِاللّٰہِ اِذَاعَاھَدِ تُمْ وَلَا تَنْقُضُوْ الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیْدِھَا وَقَدْجَعَلْتُمْ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ کَفِیْلَاہٖ وَبِحَقِّ الَّذِیْ لَیْسَ کَمِثْلَہٖ شَیْئٌ وَھُوَالسَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکار روڈ جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

اَحْفُرُوْا وَاَسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَكُوْنُوْا اَعْوَانًا لِىْ عَلٰى مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ بِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِىْ اَوَّلُهٗ اَلٌّ وَاٰخِرُهٗ اَلٌّ وَهُوَ اَلٌّ شَلَعٌ يَعُوْيَوْبِيْهٍ يَه وَاهٍ يِتْكُهٍ يَنْكَفَالٍ يَصْعِىْ كَعِىْ مَمَيَالٍ۔ مُطِيْعِيْنَ بِكَ يَا اَلٌّ جَلٍ زَرْيَالٍ اِحْتَرِقْ مَنْ عَصٰى اَسْمَاۗءَ اللّٰهِ۔ اَقْسَمْتُ وَعَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعَالِمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِىْ تَعَاهَدْتُمْ بِهٖ عِنْدَبَابِ اَلْهَيْكَلُ الْكَبِيْرُوْهُوَا، بِعَلْشَاقِشْ، مُهْرَاقَشْ، اَقْشَامَقْشْ، شَفْمُوْنَهَشْ، وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ وَبِحَقِّ اِهْيًا شَرَاهِيًا اَدُّوْنَائِىْ اَصْبَا اَوُّتَ آلَ شَدَاىٍ۔ وَبِحَقِّ اَبْجَدُ، هُوَّزَ، حَطِّىْ، وَبِحَقِّ بَطَدٌ زَهَجَ وَاحٍ، وَبِحَقِّ بَدُوْحٍ اَجْهَزَطُ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ اَلْوَحَا الْعَجَلُ السَّاعَةُ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

ادارہ روحانیت سروری نظامیہ
میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph:0307-5908474 , 0322-6865052

بارہ نقوش دعا برہتیہ کے عکس میں

قارئین کرام، آج تک آپ دعا برہتیہ کے ساتھ طلسم نہیں دیکھیں ہونگے، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج آپکے سامنے یہ بارہ طلسم دعا برہتیہ کے عکس میں موجود ہیں برائے کرم ان نقوش کو تحریر کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ انہی طلسموں کو آپ فوٹو کاپی کروا کر استعمال کریں، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا، فائدہ کی بجائے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، قارئین کرام آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں طلسم کے نیچے بریکٹ دی گئی ہے اس جگہ صرف اپنی حاجت لکھیں اور مطلوبہ کام میں لائیں، مطلوبہ کام میں لانے کیلئے دعا برہتیہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ضروری ہوگی ورنہ بغیر دعا برہتیہ پڑھے طلسم یا

نقش کوئی بھی کام نہیں کرے گا طلسموں کے بعد اگلے صفحات پر نقوش بھی دے دیئے ہیں جو اپنی افادیت رکھتے ہیں ایک بات ضرور ذہین نشین کرلیں کہ نقش آپ نے خود بنانے ہیں نقش بناتے وقت لائینوں کو سیدھا رکھیں جس طرح ہدایت دی جائے اس ہدایت پر عمل بھی کریں، تا کہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے، طلسم یا نقش لکھنے کے بعد خیرات بھی کریں تا کہ رب العالمین خیرات کے صدقے سے ہمارے کام میں آسانی فرمائے، خیرات ترقی دلاتی ہے (یعنی کام کو فوراً کرتی ہے) اور صدقہ بلا کو ٹالتا ہے (یعنی رکاوٹ دور کرتی ہے)۔

پہلا نقش

یہ نقش محبت، خلقت میں معزز، دشمن کے وار سے بچاؤ، گھر میں اگر اناج والی جگہ پر رکھیں تو برکت ہو، مال یا مالی تجارت میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہو، اگر کسی کھیت میں یا باغ میں دفن کریں تو فصل اور پھل زیادہ ہوں، اگر فاحشہ عورت کیلئے لکھ کر دھو کر اسے پلایا جائے تو وہ عورت مکروہ کام سے باز آجائے، محبت کیلئے لکھ کر اسے کسی وزنی پتھر کے نیچے رکھا جائے یا نہر کے کنارے دفن کریں یا پھر مطلوب کو میٹھی چیز میں گھول کر پلائیں، عقد بندی کیلئے وزنی پتھر کے نیچے رکھیں اور دوسرا نقش پرانی قبر میں دفن کریں اگر کسی ظالم دشمن کیلئے تحریر کیا جائے تو دشمن مع والدہ کا نام لکھ کر قبرستان میں دفن کرے، دعا برہتیۃ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِرُھَتِیۃٍ۔ کَرِیُرٍ۔ تَتُلِیُہٍ۔ طُوُرَانٍ ۔مَزُجَلٍ۔ بَزُجَلٍ۔ تَرُقَبٍ۔ بَرُھَشٍ۔ غَلُمَشٍ۔ خُوطِیر۔ قَلُنَھُوُد بَرُشَان ٍ۔ کَظُھِیرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ، وعذلوش۔ ھاذالغیش ۔عندوش ۔بمیواش۔ اوذوعرش (یہاں اپنی حاجت لکھیں

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد ... تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

بَرْهَيُولا۔ بَشْكَيْلَخٍ۔قَزْمَزٍ۔اَنْغَلَلِيْطٍ۔قَبَرَاتٍ۔
غَياهَا۔كَيْدَهُوْلا۔شَمْخَاهِرٍ۔شَمْخَاهِيْرٍ۔شَمْهَاهِيرٍ۔بِكَهْطَهُوْنَيَةٍ۔
بَشَارِشٍ۔طُوْنَشٍ۔شَمْخَابَارُوْخٍ۔

دوسرا نقش

اگر زن و شوہر میں ناچاقی ہو تو اس نقش کو دھو کر دونوں کو کسی مشروب میں پلایا جائے تو انشاء اللہ میاں بیوی میں محبت اور اتفاق ہو جائے گا، اگر اس نقش کو گھر میں رکھیں تو آگ لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے اگر کسی عورت کی اولاد نہ ہوتی ہو، یا بچہ ہو کر مرجاتا ہو تو نقش اول کو رات سونے کے وقت اپنے سرہانے میں رکھے اور دوسرا نقش پی لے اور ساتھ اپنے خاوند کو بھی پلائے، اور اسی سرہانے پر سر رکھ کر خلوت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہو جائے اس نقش کی برکت سے حمل ٹھہر جائے گا اور فرزند صالح پیدا ہوگا۔ اگر کوئی دشمنوں کی شرارت سے تنگ آچکا ہو تو اس نقش کو اپنے پاس رکھے ان کے شر سے محفوظ رہے اگر کسی جائز حاجت کیلئے اس نقش کو جاری پانی پر ڈال دے اور پھر روزانہ دعا برہتیہ 11 بار پڑھتا رہے انشاء اللہ حاجت جلد پوری ہوگی، دعا برہتیہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔بِرْهَتِيَةٍ۔ كَرِيْرٍ۔تَتْلِيْهٍ۔طُوْرَانٍ۔
مَزْجَلٍ۔بَزْجَلٍ۔تَرْقَبٍ۔بَرْهَشٍ۔غَلْمَشٍ۔خُوطِير۔قَلْنَهُوْد۔بَرْشَان
۔ كَظْهِيرٍ۔ نَمُوشَلَخ اذهرش،دهصارش،اباش
،شمهورش،عنقاش،انفاش (حاجت لکھیں)بَرْهَيُولا۔
بَشْكَيْلَخٍ۔قَزْمَزٍ۔اَنْغَلَلِيْطٍ۔قَبَرَاتٍ ۔ غَياهَا۔كَيْدَهُوْلا ۔
شَمْخَاهِرٍ۔شَمْخَاهِيْرٍ۔شَمْهَاهِيرٍ۔بِكَهْطَهُوْنَيَةٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوْنَشٍ
۔شَمْخَابَارُوْخٍ۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد ... تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

تیسرا نقش

اگر کسی کنواری لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو یا رشتوں کے پیغام نہ آتے ہوں تو اس نقش کو لڑکی اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاء اللہ جلد شادی ہوگی، اگر کوئی اس نقش کو اوج یا شرف مشتری کے اوقات میں یا قرآن مشتری و شمس یا قرآن وقمر و مشتری میں یا پھر جب ان سے کوئی ستارہ آسمان پر طلوع ہو تو اس نقش کو ستارے کے مقابل کر کے زعفران بخور دے، دعا برہتیہ 3 مرتبہ پڑھے اور پھر اس نقش کو اپنے پاس رکھے تو حامل نقش اللہ کے حکم سے خلائق کی نظروں میں معزز اور شہرت کی بلندیوں کو چھوئے گا حلال رزق ملے گا، نقش یہ ہے۔

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم۔ بِرُهَتِيةٍ۔ كَرِيُرٍ۔ تَتُلِيُهٍ۔ طُوُرَانٍ۔ مَزُجَالٍ۔ بَزُجَلٍ۔ تَرَقَبٍ۔ بَرُهَشٍ۔ غَلَمَسٍ۔ حوطِر۔ قَلُنَهُوُدٍ۔ بَرُشَانٍ۔ كَظُهِيرٍ۔ نمُوشَلَخٍ۔ توحوتیس، میراش، ھبطش، شاھیلش، درائیش، ملیش، دھلوش (یہاں اپنی حاجت لکھیں) بَرُهَيُولا۔ بَشُكَيُلَخٍ۔ قَزُمَزٍ۔ اَنُغَالِبُطٍ۔ قَبَرَاتٍ۔ غَيَاهَا۔ كَيُدَهُوُلا۔ شَمُخَاهِرٍ۔ شَمُخَاهِيُرٍ۔ شَمُهَاهِيرٍ۔ بِكَهُطَهُوُنَيَةٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوُنَشٍ۔ شَمُخَابَارُوُخٍ۔

چوتھا نقش

اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو یا مالی تجارت حسب مرضی فروخت نہ ہوتا ہو تو اس نقش کو درخت برگد کے اکیس پتوں پر لٹکائیں اور پھر ایک ایک پتہ کو کسی بڑی نہر میں چھوڑ دے اور ہر پتہ نہر میں ڈالتے وقت دعا برہتیہ ایک بار اور (۲۱) مرتبہ یہ آیت پڑھیں، **رَبِّ**

اِنِّیۡ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرَّحِمِیۡنَ، اس عمل تین روز بجالائے اس نقش کو اپنے پاس محفوظ رکھے تو انشاء اللہ روزی رزق میں خوب اضافہ ہوگا، حافظ کی کمزوری ختم کرنے اور تیزی ذہین کیلئے اس نقش کو ساعت عطارد میں پائیں بہت مؤثر ہے، ایسا ہی ایک تعویذ اپنے گلے میں لٹکائے تو انشاء اللہ حامل نقش کو برسوں کی بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں گی، اور سنی ہوئی بات برسوں تک یاد رکھے گا، دعا برہتیہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں، نقش یہ ہے،

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم۔ بِرُهَتِیةٍ۔ کَرِیُرٍ۔ تَتُلِیُهٍ۔ طُوُرَانٍ۔ مَزُجَلٍ۔ بَرُحَلٍ۔ تَہ قَبٍ۔ بَرُهَشٍ۔ غَلُمَشٍ۔ خُوطِیر۔ قَلُنَهُوُد۔ بَرُشان کَظُهِیرٍ۔ نَموشَلَخ۔ عدنوش، هاذیش، مراونوش، هلیطاش، طیارش، راتانیش (حاجت لکھیں) بَرُهیُولا۔ بَشَکَیُلَخٍ۔ قَرُمَزٍ۔ اَنُغَلِیطٍ۔ قَبَات۔ غَیاهَا۔ کَیُدَهُوُلا۔ شَمُخَاهِرٍ۔ شَمُخَاهِیُرٍ۔ شَمُهَاهِیرٍ۔ بِکَهُطِهرُنَیُةٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوُنَشٍ۔ شَمُخَابَارُوُخٍ۔

پانچواں نقش

اگر کوئی اس نقش کو ساعت شمس میں لکھ کر اپنے پاس رکھے اور 40 روز تک دعا برہیہ پڑھے تو لوگوں میں عزیز و محترم ٹھہرے، جہاں جائے لوگ عزت و احترام سے پیش آئیں اور تسخیر خلق ہو جو اس نقش کو مشک و زعفران کا بخور دے کر اپنے پاس رکھے تو خوف دشمنان سے امن میں رہے اور اگر مقروض ہو تو اس کا قرض اتر جائے گا نقش اپنے پاس رکھے، تین مرتبہ دعا برہیہ پڑھیں۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم۔ بِرُهَتِیةٍ۔ کَرِیُرٍ۔ تَتُلِیُهٍ۔ طُوُرَانٍ۔

مَزُجَلٍ۔ بَزُجَلٍ۔ تَرَقَبِ۔ بَرُهَشٍ۔ غَلُمَشٍ۔ خُوطِير۔ قَلُنَهُوُد۔ بَرُشَان۔ كَظُهِيرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ۔ بنولوش، متدلاش، وهنفاش، دهنعاش، اطميعاش، مفتوش( ) بَرُهَيُولا۔ بَشُكَيُلَخٍ۔ قَزُمَزٍ۔ اَنُغَلَلِيُط۔ قَبَرَاتٍ۔ غَياهَا۔ كَيُدَهُوُلا۔ شَمُخَاهِرٍ۔ شَمُخَاهِيُرٍ۔ شَمُهَاهِيرٍ۔ بِكَهُطَهُوُنِيَةٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوُنَشٍ۔ شَمُخَابَارُوُخٍ۔

چھٹا نقش

اگر کوئی آدمی کسی سے حاجت رکھتا ہو اور وہ پوری نہ کرتا ہو تو اس نقش کو ہرن کی کھال میں رکھ کر محفوظ کرے اور اپنے دائیں بازو پر باندھ کر اس کے پاس چلا جائے، وہ ضرور حاجت پوری کر دے گا، جو شخص اس نقش کو شرف عطارد کے وقت اپنے پاس رکھے تو اس پر زہر کا اثر نہ ہوگا، اگر زہر خوردہ کو موم میں لپیٹ کر پانی میں پلایا جائے تو زہر کا اثر باطل ہو جائے گا، اگر کسی کے دانتوں میں درد ہو تو اس کا تعویذ بنا کر دانت کے نیچے رکھے تو دانت کا درد ختم ہو جائے گا، دعا برہتیۃ کو تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِرُهَتِيةٍ۔ كَرِيُرٍ۔ تَتُلِيُهٍ۔ طُوُرَانٍ۔ مَزُجَلٍ۔ بَزُجَلٍ۔ تَرَقَبِ۔ بَرُهَشٍ۔ غَلُمَشٍ۔ خُوطِير۔ قَلُنَهُوُد۔ بَرُشَان۔ كَظُهِيرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ۔ توهوناش، اميراش، هبطش، شاهيلش، درانيش، مليش، دهلوش ( ) بَرُهَيُولا۔ بَشُكَيُلَخٍ۔ قَزُمَزٍ۔ اَنُغَلَلِيُطٍ۔ قَبَرَاتٍ۔ غَياهَا۔ كَيُدَهُوُلا۔ شَمُخَاهِرٍ۔ شَمُخَاهِيُرٍ۔ شَمُهَاهِيرٍ۔ بِكَهُطَهُوُنِيَةٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوُنَشٍ۔ شَمُخَابَارُوُخٍ۔

ساتواں نقش

اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دیگر عورتوں سے تعلق رکھے تو ایسے شخص کیلئے اس نقش بھوج پتر میں محفوظ کر لے اور مقصد کی جگہ یہ لکھے (**بَسْتَمُ ذِ کر** (نام مرد مع والدہ) **ہر فرج بنات حوا معلوم و نامعلوم ماسوائے** (نام بیوی مع والدہ) **تامن نکشائم ہر گز کسے نکشائید لا تزنی ابداً**)۔ اس کو نئے آب خورہ میں رکھ کر اوپر تھوڑی سی شکر سفید ڈال کر موم سے اس کا منہ اچھی طرح بند کر کے کسی قبرستان میں دفن کر دیں پس مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے پاس نہ جا سکے گا، اگر کوئی شخص ظالم منافع خور اور مال میں ملاوٹ کر کے ناجائز منافع حاصل کرنے والے کی تجارت، کاروبار، یا دکان کو بند کرنا چاہے تو اس کے سر کے بال سات عدد اور قدرے نیلی اور بھٹی کا دھواں مع بالوں کے کپڑے میں باندھ کے دعا برہتیہ کو **21** مرتبہ پڑھ کر دم کرے، پھر اسے کوزہ گلی آب نارسید میں بند کر کے اوپر موم لگا کر قبرستان میں دفن کر دے، خدا نے چاہا تو اس کا کام بند ہو جائے گا، نقش یہ ہے۔

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم۔ بِرُهَتِيَةٍ۔ کَرِبُرٍ۔ نَتْلِيُهٍ۔ طُوُرَانٍ۔ مَزُجَلٍ۔ بَزُجَلٍ۔ تَرُقَبٍ۔ بَرُهَشٍ۔ غَلُمَشٍ۔ خُوطِير۔ قَلُنَهُوُد۔ بَرُشَان۔ کَظُهِيرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ۔ اذهرش، دهطارش، اباش، شمهورش، عنقاش، انقاش، (حاجت لکھیں **) بَرُهَيُولا۔ بَشُکَيُلَخٍ۔ قَزُمَزٍ۔ اَنُغَلَلِيُط۔ قَبَرَاتٍ۔ غَيَاهَا۔ کَيُدَهُوُلا۔ شَمُخَاهِرٍ۔ شَمُخَاهِيُرٍ۔ شَمُهَاهِيرٍ۔ بِکَهُطَهُوُنَيُةٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوُنَشٍ۔ شَمُخَابَارُوُخٍ۔**

آٹھواں نقش

اگر کسی کی چوری ہو گئی ہو یا کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو اور تلاش جستجو کے بعد کچھ پتہ نہ چلے تو وہ پاک صاف ہو کر اس نقش کو اپنی دائیں ران پر رکھے، اور خلوت میں بیٹھ کر مکمل دعا برہتیہ **360** مرتبہ پڑھے، اور اللہ تعالی سے اپنی حاجت بیان کرے، تو غیب سے ارواح علویہ بشکل انسان خواب یا بیداری میں آگاہ فرمائیں گی، اگر اس نقش کو عرق گلاب میں دھو کر نامرد کو پلائیں نامرد بستہ کشادہ ہو، اگر کسی فاحش مرد کی شہوت بستہ کرنا ہو تو اس نقش کو کسی سفید مومی کاغذ میں نام مرد مع والدہ اور مقصد تحریر کر کے لپیٹ کو قفل کی جوف میں رکھ کر قفل بند کر دیا جائے، اور دعا برہتیہ کو **21** مرتبہ پڑھ کر قفل پر دم کر دیں، اور قفل پر موم لگا دیں، یہ کام اس وقت کریں جب قمر در عقرب ہو اور قفل کو کسی قبر میں دفن کریں، مرد کی شہوت بستہ ہو جائے گی اور وہ کسی عورت سے جماع نہ کر سکے گا، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم بِرْهَتِیۃٍ۔ کَرِیرٍ۔ تَتْلِیہٍ۔ طُوْرَانٍ۔ مَزْجَلٍ۔ بَزْجَلٍ۔ تَرْقَبٍ۔ بَرْهَشٍ۔ غَلْمَشٍ۔ خُوطِیرٍ۔ قَلْنَهُوْدٍ۔ بَرْشَانٍ۔ کَظْهِیرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ۔ وعذنوش، هاذلغیش، عذروش، بمبواش، اوذوعرش، (حاجت لکھیں **) بَرْهَیُولا۔ بَشْکَیْلَخٍ۔ قَزْمَزٍ۔ اَنْغَلَلِیْطٍ۔ قَبَرَاتٍ۔ غَیاهَا۔ کَیْدَهُوْلا۔ شَمْخَاهِرٍ۔ شَمْخَاهِیْرٍ۔ شَمْهَاهِیرٍ۔ بِکَهْطَهُوْنِیَۃٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوْنَشٍ۔ شَمْخَابَارُوْخٍ۔**

نوواں نقش

اگر دعا برہتیہ مع نقش سات بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی کچھ پی لے اور

باقی چہرے اور سینے پر ملے اور روزانہ سات مرتبہ اس کی تلاوت کرے۔ پھر اس کو اپنا معمول بنا لے، تو انشاء اللہ، تعالیٰ اسے تھوڑے عرصہ میں بہت زیادہ غنی کر دے گا، اگر کوئی اس نقش کو اپنے کاروبار والی جگہ پر لٹکائے پھر اس کو **21** مرتبہ روزانہ پڑھے تو جلد اس کا کاروبار عروج پر پہنچ جائے اور خوب نفع کمائے، نقش یہ ہے

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ـ بِرُهَتِيةِ ـ كَرِيُرِ ـ تَتُلِيُهِ ـ طُوُرَانٍ ـ
مَزُجَلٍ ـ بَزُجَلٍ ـ تَرُقَبٍ ـ بَرُهَشٍ ـ غَلُمَشٍ ـ خُوطِير ـ قَلُنَهُوُد ـ بَرُشَان
ـِ كَظُهِرٍ ـ نَمُوشَلَخٍ ـ ذهاهوش، ذزماش، هبطش، مطش،
اذزش، هبطعيش، فروش، دهنداش، (
) بَرُهيُولاَ ـ بَشَكَيُلَخ ـ قَزُمَزٍ ـ اَنُغَلَلِيُطٍ ـ قَبَرَاتٍ ـ
غَياهَا ـ كَيُدَهُوُلا ـ شَمُخَاهِرٍ ـ شَمُخَاهِرٍ ـ نَمُهَاهِيرٍ ـ بِكَهُطَهُوُنَيَةٍ ـ
بَشَارِشٍ ـ طُوُشَنٍ ـ شَمُخَابَارُوُخٍ ـ

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ جامع مسجد ... تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

دسواں نقش

اگر کسی عورت کو بچہ جننے میں تکلیف ہو رہی ہو تو یہ نقش بازو پر آویزاں کریں، ولادت میں آسانی ہو گی، اگر کوئی کمزور بدن والا اپنے پاس رکھے تو کمزوری دور ہو، اگر کسی مرد و زن کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اسے بھوج پتر میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے جلد شادی ہو، اگر کسی عورت کا حمل نہ ہوتا ہو تو یہ نقش بھوج پتر میں جمعرات کے دن اپنی کمر میں باندھے اور شوہر سے ہم بستری کرے، انشاء اللہ حاملہ ہو جائے گی، اگر بے ثمر درخت پر آویزاں کریں تو پھل خوب آئے گا، مرغی کا تازہ انڈہ جو اس نے پہلی مرتبہ دیا ہو لے کر اس پر نقش کاٹ کر چسپاں کریں پھر اس پر یہی نقش ایک تسبیح پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اسی دوران

انڈے میں حرکت شروع ہو جائے گی اور انڈہ ایسی جگہ پہنچ کر رک جائے گا جہاں دفینہ ہوگا، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِرْهَتِیۃٍ۔ کَرِیْرٍ۔ تَتْلِیُهٍ۔ طُوْرَانٍ۔ مَزْجَلٍ۔ بَزْجَلٍ۔ تَرْقَبٍ۔ بَرْهَشٍ۔ غَلْمَشٍ۔ خُوطِیر۔ قَلْنَهُوْد۔ بَرْشَان۔ کَظْهِیرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ۔ یدیهاسن، طوسی، حروش، میوش، ورنوش، طاطیش، ذرلوش، طاطیش،

(حاجت لکھیں) بَرْهَیُولا۔ بَشْکَیْلَخٍ۔ قَزْمَزٍ۔ اَنْقَلِیُطٍ۔ قَبَرَاتٍ۔ غَیاهَا۔ کَیْدَهُوْلا۔ شَمْخَاهِرٍ۔ شَمْخَاهِیُرٍ۔ شَمْهَاهِیرٍ۔ بِکَهعَهُوْنِیَۃٍ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوْنَشٍ۔ شَمْخَابَارُوْخٍ۔

گیارہواں نقش

اگر کوئی اس نقش کو سات مرتبہ مٹھی بھر خاک پر دم کر کے دشمن کی طرف پھینک دے تو دشمن خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے اگر سفر میں رہزن حملہ کر دیں تو سات بار پڑھ کر ان کی طرف پھونک دے، بھاگ جائیں گے۔ اگر کسی میٹھی چیز پر سات مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کسی ناراض دوست کو کھلا دیں تو وہ راضی ہو جائے گا، اگر اس نقش کو نام مع والدہ گم شدہ کا تحریر کریں پھر اسے کسی تاریک مکان میں دفن کر کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیں تو مفرور جلد واپس آجائے گا، نقش یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِرْهَتِیۃٍ۔ کَرِیْرٍ۔ تَتْلِیُهٍ۔ طُوْرَانٍ۔ مَزْجَلٍ۔ بَزْجَلٍ۔ تَرْقَبٍ۔ بَرْهَشٍ۔ غَلْمَشٍ۔ خُوطِیر۔ قَلْنَهُوْد۔ بَرْشَان۔ کَظْهِیرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ۔ یدیهاسن، طوسی، حروش، میوش، ورنوش، طاطیش، ذرلوش، طاطیش،

( ) بَرُهَیُولا۔ بَشُکَیُلَخِ۔ قَزُمَزِ۔ اَنُغَلَلِیُطِ۔ قَبَرَاتِ۔ غَیاهَا۔ کَیُدَهُوْلا۔ شَمُخَاهِرِ۔ شَمُخَاهِیُرِ۔ شَمُهَاهِیرِ۔ بِکَهُطَهُوْنَیُةِ۔ بَشَارِشِ۔ طُوْنَشِ۔ شَمُخَابَارُوْخِ۔

بارہواں نقش

اگر کسی کو حاکم یا افسر سے کوئی حاجت ہو تو اس نقش کو عرق گلاب میں دھو کر کچھ پی لے اور کچھ سے اپنا منہ دھو لے پھر اس کے پاس چلا جائے انشاء اللہ وہ شخص حاجت پوری کریگا، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِرُهَتِیةِ۔ کَرِیُرِ۔ تَتُلِیُهِ۔ طُوْرَانِ۔ مَزُجَلِ۔ بَزُجَلِ۔ تَرُقَبِ۔ بَرَهَشِ۔ غَلُمَشِ ۔ خُوطِیر۔ قَلُنَهُوْد۔ بَرُشَان ۔ کَظُهِیرِ۔ نَمُوشَلَخِ۔ ذهاهوش، برهاش، هبطش، مطش، اذرش، هیطیش، فروش، دهنداش، ( ) بَرُهَیُولا۔ بَشُکَیُلَخِ۔ قَزُمَزِ ۔ اَنُغَلَیُطِ۔ قَبَرَاتِ ۔ غَیاهَا۔ کَیُدَهُوْلا۔ شَمُخَاهِرِ۔ شَمُخَاهِیُرِ۔ شَمُهَاهِیرِ ۔ بِکَهُطَهُوْنَیُةِ ۔ بَشَارِشِ۔ طُوْنَشِ۔ شَمُخَابَارُوْخِ۔

دعا برہتیہ کے اٹھائیس طلسم

پہلا اسم (بِرُهَتِیةِ)

☆... اس اسم کو 35 مرتبہ سفید پلیٹ پر زعفران و گلاب سے لکھے اور پھر آب زم زم سے یا صاف پانی سے دھو کر کسی دردزہ والی عورت کو پلائے تو وہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوری بچہ جنے گی،

☆... اگر کوئی تنگی رزق والا اسے روزانہ 100 مرتبہ مسلسل چالیس یوم تک پڑھے تو اللہ

تعالیٰ روزی رزق کشادہ فرمائے،

☆... جو شخص اسے اپنی دائیں ہتھیلی پر (۷) مرتبہ لکھے اور اسے چاٹ لیا کرے سات یوم تک ایسا ہی کرے تو اس کا حافظہ تیز ہو جائے،

☆... سحر زدہ مریض کو دعا برہتیہ صغیر لکھ کر اس کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈالے اور یہی دعا زعفران و گلاب سے تحریر کر کے مریض کو دیں تا کہ وہ عرق گلاب میں ڈال کر روزانہ صبح و شام پی لیا کرے 21 یوم تک ایسا ہی کرے، انشاء اللہ سحر سے نجات مل جائے گی،



ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ سرکار روڈ نزد جامع مسجد محمدی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

بِرُهَتِيةٍ۔ كَرِيُرٍ۔ تَتُلِيُهِ۔ طُوُرَانٍ۔ مَزُجَلٍ۔ بَزُجَلٍ۔ تَرُقَبٍ۔ بَرُهَشٍ۔ غَلُمَشٍ ۔خُوطِير۔ قَلُنَهُوُد۔ بَرُشَان۔ كَظُهِيرٍ۔ نَمُوشَلَخٍ۔ بَرُهَيُولا۔ بَشُكَيُلَخٍ۔ قَزُمَزٍ۔ اَنُغَلَلِيُطٍ۔ قَبَرَاتٍ ۔

غَياهَا۔ كَيُدَهُوُلا۔ شَمُخَاهِرٍ۔ شَمُخَاهِيُرٍ ۔شَمُهَاهِيرٍ ۔بِكَهُطَهُوُنَيُةٍ ۔ بَشَارِشٍ۔ طُوُنَشٍ۔ شَمُخَابَارُوُخٍ۔

دوسرا اسم (کَرِیُر)

☆... اگر کوئی شخص اس اسم کو روزانہ ۷۰۰ ۲ مرتبہ ہمیشہ پڑھے تو جنات کی حضوری پائے، اور اکثر اوقات جنات مختلف امور میں بطور خدام معاون ہوں گے،

☆... جو تاجر مال تجارت میں سفید کاغذ پر اسے گیارہ مرتبہ تحریر کر کے رکھے تو مال چوری نہ ہوگا،

☆... اگر آشوب چشم والا پانی سے سترہ مرتبہ پلیٹ پر لکھے اور اسے دھو کر تین دن تک پیتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفاء دے گا

☆... اگر کوئی برہتیہ، کریر کو اپنے لعاب سے کسی کھانے والی چیز پر لکھے اور کسی کو کھلا دے تو کھانے والے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی،

☆... اگر اس طرح طلسم لکھ کر وزن کے نیچے رکھے اور اپنا مقصد بیان کرے تو کام جلد ہو۔



☆... پانی پر ان دونوں اسماء کو دم کرے اور جو شخص پانی پیئے گا اسے محبت پیدا ہوگی،

☆... اگر کوئی شخص عنبر کی تختی پر ان دونوں اسماء کو نقش کرے، اور کنواری لڑکی کے پاس رکھنے کو دے تو لڑکی کی جلد منگنی یا شادی ہو جائے گی

☆... اگر اس طلسم کو مال تجارت میں رکھے تو منافع کثیر حاصل ہو۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد ... تحصیل میلسی ... شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

۷۸٦

برهتيةٍ	كرير	برهتيةٍ	كرير
كرير	برهتيةٍ	كرير	برهتيةٍ
كرير	برهتيةٍ	كرير	برهتيةٍ
برهتيةٍ	كرير	برهتيةٍ	كرير

یہاں کاروبار کا نام لکھیں

تیسرا اسم (تَتْلِیُه)

☆...لوحِ کشادہ میں لکھ کر گھر میں لٹکانے سے کھٹمل بھاگ جائیں،

☆...جو شخص اس اسم کو روزانہ ۲۷۰ مرتبہ تلاوت کرے، اور اس پر مداومت کرے تو اللہ تعالیٰ اسکی بہتر زندگی عطاء فرمائے اور غنی کر دے،

☆...اگر میاں بیوی کے درمیان نفرت یا جھگڑا ہو تو خاوند اس کو ستر مرتبہ ہرن کی جھلی پر زعفران و مشک سے لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ بیوی فرمانبردار رہو

☆...جو کوئی **برهتية، كرير، تتليه**، ان تینوں اسماء کا روزانہ رات کو سوتے وقت ورد کرے، اور پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے، اور اسے اپنا معمول بنا لے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ارواح علویہ وسفلیہ سب فرمانبردار ہوگی، اور مختلف امور میں معاون ہونگی،

☆...اگر اس طلسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو نفع کثیر پائے۔



چوتھا اسم (طَوُرَانٍ)

☆ ...جو کوئی اس اسم کو پانچ مرتبہ لکھے اور پھر سورۃ حشر کی آخری چار آیات بھی ساتھ تحریر کرے پھر تین مرتبہ (یھا) اور ([illegible]) [illegible] مرتبہ (ء) لکھ کر اپنے پاس رکھے، حامل لوح دشمن، جنات اور ظالموں کے غلبہ اور ان کے شر سے محفوظ رہے گا،

☆ ...جو کوئی شخص مندرجہ بالا چاروں اسماء کو کاغذ پر زعفران سے تحریر کرے اور پھر عرق گلاب سے دھو کر اپنے چہرہ کو دھوئے اور کسی حاکم کے پاس جائے تو حاکم مہربان ہوگا، اسماء یہ ہیں (برہتیۃ، کریر، تتلیہ، طوران)۔

☆ ...کوئی (کریر، طوران) ان دونوں اسماء کو خلوت میں روزانہ ایک ہزار مرتبہ تلاوت کرے اور ریاضت کے وقت لوبان کا بخور بھی روشن کرے چالیس یوم تک مسلسل ریاضت کرے تو ارواح علوی و سفلی کی ایک جماعت فرمانبردار ہوگی، اور تمام امور دنیاوی میں معاون ثابت ہوگی،

☆ ...اس نقش کو مریض کے گلے میں ڈالے اللہ تعالیٰ اسے صحت عطاء فرمائے اور اگر وہ بیمار سحر زدہ ہو تو اِس سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، صحت کامل عطاء ہوگی،



پانچواں اسم (مُزْجَلٍ)

☆...اگر اس اسم کو کسی پلیٹ پر سات مرتبہ لکھیں اور پھر بانجھ عورت کو غسل حیض کے بعد سات یوم تک مسلسل دھو کر پلایا جائے اور وہ عورت اپنے خاوند سے ہمبستری بھی کرے، اللہ کے حکم سے حاملہ ہو جائے گی،

☆...اگر کوئی اس کو روزانہ ۲۵۰ مرتبہ تلاوت کرے اور اس عمل کو اپنے روزانہ معمولات میں شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے، اور ہر فرد اس کی تعظیم کرے، بلند مرتبہ حاصل ہوگا، اور اس کی وفات سے قبل اسے حضور نبی کریمؐ کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہوگی،

☆...اس طلسم کو تحریر کر کے مریض کو دیں تا کہ وہ اسے پانی میں بھگو دے اور اس پانی سے کچھ پی لے اور باقی پانی سے غسل کرے یہ عمل ۲۱ دن کریں انشاء اللہ سحر ختم ہو جائے گا اور معقود اپنی بیوی پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قادر ہو جائیگا، طلسم یہ ہے


۷۸۶
مزجل
مزجل
مزجل
مزجل
مزجل
مزجل
مزجل
مزجل
مزجل
مزجل

چھٹا اسم (بَزُجَلٍ)

☆...عاملین کاملین فرماتے ہیں کہ یہ وہ اسم ہے جس کی برکت سے شہر بابل کی زہرہ آسمان پر گئی تھی، جو شخص اس اسم کو جمعرات کے دن سورج نکلنے سے پہلے سرخ کاغذ پر لکھے اور پھر کسی سے کلام کئے بغیر اس کو پڑھتے ہوئے اس کاغذ کو نہر میں ڈال دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کیلئے دعا کرے یہ عمل ۷ یوم کرنا ہوگا انشاء اللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی،

☆...اگر کوئی ایک صاف برتن میں پانی لے کر اس میں تین چھوٹی سی کنکری نمک کی ڈال دے اور پھر اس پر **مزجل بزجل** ۶۶ مرتبہ پڑھ کر دم کرے سحر زدہ یا معقود کو پلایا جائے اور اس پانی میں اور پانی شامل کر کے ساتھ اس نقش کو بھی شامل کر لے پھر غسل کرے تو سحر جادو کے تمام اثرات باطل ہو جائیں گے، طلسم یہ ہے


۷۸۶
مزجل۔ بزجل
مزجل۔ بزجل
مزجل۔ بزجل
مزجل۔ بزجل
مزجل۔ بزجل
مزجل۔ بزجل
مزجل۔ بزجل

ساتواں اسم (تَرُقب)

☆...جو کوئی جمعۃ المبارک کو اس نقش کے اوپر یہ اسم لکھے اور نقش کے نیچے مندرجہ ذیل عبارت تحریر کرے، اور اسے عود صندل کا بخور دے کر کاروبار کی جگہ آویزاں کر دے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں خوب برکت دے گا، طلسم یہ ہے


ترقب
ترقب
۷۸۶
ترقب
ترقب
ترقب
ترقب
ترقب
ترقب
ترقب
ترقب
ترقب
ترقب

کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا

آٹھواں اسم (بَرُھَشٍ)

☆...جو کوئی شخص ان دونوں اسم کو نصف شب میں ایک ہزار دو سو نو مرتبہ (۱۲۰۹) پڑھے اور ہر سو کے بعد خدام کا نام لے تو جلد مقصد پورا ہوگا، اسم یہ ہیں (ترقب، برھش) خدام یہ ہیں (**زحرائیل وشیطائیل**) بخور عمل عود ہے۔

☆...اگر کوئی اس نقش کو لکھ کر نہر میں ڈال دے تو جو بھی مقصد رکھتا ہوگا وہ اللہ کے حکم ضرور پورا ہوگا، طلسم یہ ہے۔


ترقب۔زحرائیل
۷۸۶
برھش و شیطائیل
برھش و شیطائیل
ترقب۔زحرائیل
ترقب۔زحرائیل
برھش و شیطائیل

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکار روڈ نزد جامع مسجد بدمدی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

نوواں اسم (غَلْمَشٍ)

☆... جو شخص اس اسم کو تین رات تین سو مرتبہ پڑھے اور روزہ بھی رکھے انشاء اللہ تین دن نہ گزرنے پائیں گے کہ حاجت پوری ہوگی،

☆... جو شخص اس کو کسی دھات کے ٹکڑے پر گیارہ مرتبہ جدا جدا حروف (غ ل م ش) کے ساتھ لکھے پھر بخور دے اثر مطلوب کے ساتھ پھر اسے غالب طبع مطلوب کے مطابق استعمال کر لے، تین دن نہ گزرنے پائیں گے کہ مطلوب حاضر ہوگا،

☆... اگر کوئی شخص کسی بھی آسیب زدہ مکان سے جنات کو بھگانے کا ارادہ کرے تو اس اسم کو (۷۸۶) مرتبہ پڑھے، اور بخور عود کا روشن کرے بلکہ اس کو معکوس کر کے پڑھنا ہے یعنی ''شملغ'' ساتھ ہی اس طلسم کو اپنے استعمال کو لائے تا کہ پریشانی نہ اٹھانہ پڑے، طلسم یہ ہے،



غلمش شملع بحق هذا الاسم ايها الملائكة ائدنو اللجان ان يرجعوا غلمش
الىٰ اما كنهم و الىٰ ماؤ كلواعليه بارك الله فيكم و عليكم

دسواں اسم (خَوُطِيُرٍ)

☆... اگر کوئی شخص چاندی کی انگوٹھی پر مندرجہ ذیل اسماء کو لکھے (مزجل، بزجل، ترقب، برھش، غملش، خوطیر) اور پھر انگوٹھی کو اپنے سیدھے ہاتھ کی کسی انگلی میں پہن لے پس وہ فردفن حرب میں طاق ہوگا، اپنے زمانے کے دیگر ماہرین سے، اللہ تعالیٰ زیادہ مہارت عطاء

فرمائے گا، اگر عاملین یہ انگوٹھی پہنیں تو بہت فائدہ ہو عملیات میں بھی بھرپور مدد ملے گی،

☆ ... اگر کسی جانور کا زخم خراب ہو گیا ہو تو اس اسم کو صاف برتن پر لکھیں اور دھو کر اس جانور کو پلاتے رہیں انشاء اللہ تندرست ہو جائیگا، اگر اسے بھیڑ کے رنگے ہوئے چمڑے پر لکھا جائے اور پھر اس گھر میں کسی چوکھٹ پر دفن کر دیا جائے تو اس گھر میں کتا داخل نہ ہوگا،

☆ ... اگر اسے سیب پر سات مرتبہ مطلوب کے نام کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے اور پھر وہ سیب مطلوب کو کھلا دیا جائے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی،

☆ ... اگر کوئی شخص شرف مشتری کے وقت سونے کی لوح پر اسے لکھے اور پھر اپنے پاس رکھے تو لوگوں پر اس کا رعب اور دبدبہ ہو اور عزت و احترام بڑھے گا، اور دولت کے دروازے بھی انشاء اللہ کھل جائیں گے۔

☆ ... کوئی شخص ہفتے کے دن ساعت اول میں اس نوش [illegible] یہ پر لکھے اور پھر لونگ کا بخور دیکر سیاہ اون کے دھاگے کے ساتھ باندھ کر لٹکائے تو جس کسی کا نکاح یا شادی باندھنا مقصود ہو تو طلسم کے نیچے مع والدہ لکھے اس کا نکاح بندھ جائیگا، طلسم یہ ہے۔



وانا ذھاب بہ لقادرن، مزجل، بزجل، ترقب، برھش
غلمش، خوطیر، جس کا نکاح یا شادی باندھا ہو تو اس کا نام مع والدہ لکھیں

گیارہواں اسم (قَلْنَهُوْهٍ)

☆...اس اسم کو ۲۷ مرتبہ کسی آسیب زدہ پر پڑھا جائے اور ساتھ نقش بھی پلایا جائے تو آسیب نکل جائے گا، طلسم یہ ہے



☆...اگر کسی عورت کا خون حیض جاری ہو یا کسی کا خون بواسیر نکسیر یا مقعد کے ذریعہ آرہا ہو یا سحر جادو کی وجہ سے خون کی قے آتی ہو سب کیلئے یہ نقش مفید ہے، مریض کے کپڑے پر یہ طلسم تحریر کرکے اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاء اللہ فوراً خون رک جائیگا،

بارھواں اسم (برشان)

☆...کوئی شخص شرف قمر کے وقت چاندی کی انگوٹھی پر اسے لکھے اور پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہن لے تو لوگوں میں عزت واحترام بڑھے گا،

☆...اگر کوئی ارواح سے کسی چیز کے متعلق خبر لینا چاہے تو لوبان کا بخور روشن کر کے رات کو سوتے وقت ان دو اسماء کو پڑھتے پڑھتے سو جائے ساتھ اس نقش کو بھی تکیہ کے نیچے رکھے اسماء یہ ہیں (**قلنهود، برشان**)،۔ طلسم یہ ہے


برشان ۷۸۶
برشان
برشان
برشان

تیرہواں اسم (کَظُھِیرٍ)

☆...عاملین وکاملین فرماتے ہیں کہ اسم حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے، اس کے خواص یہ ہیں کہ اگر کوئی تانبے کی لوح پر نقش مسدس کندہ کرے اور پھر گھر میں لٹکائے تو وہ گھر آگ سے لگنے، چوروں سے محفوظ رہیگا اور اس گھر میں آسیب داخل نہ ہو سکے گا، طلسم یہ ہے۔


ک ظ ھ ۷۸۶ ی ر
کظھیر
کظھیر
ک ظ ھ ی ر

چودھواں اسم (نَمُوشَلَخ)

☆...جو کوئی اس اسم کو مع اس آیت کے ہفتہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے اس کھجور کے پتے پر لکھے جسے ابھی پھل نہ آیا ہو اور کھانسی کے مریض کے گلے میں ڈال دیں اسے صحت ملے گی، **’نموشلخ بحق فلا افتحم العقبة وما ادرلک ماالعقبة فک رقبة‘**

☆...اگر قیدی اس اسم کو ۹۶۲ مرتبہ ہمیشہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلد رہا ہو جائے ، اگر کسی فرد کے بدن سے خون جاری ہو تو اس کے کپڑے پر ان اسماء کو لکھا جائے اور پھر تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے اللہ کے حکم سے خون بند ہو جائے گا، خواہ خون کسی بھی قسم کا ہو، اسماء یہ ہیں **قلنهود، برشان، کظهیر، نموشلخ**، اگر کسی شخص سے کوئی مقصد طلب کرنا ہو تو اس طلسم کو لکھے ساتھ اس شخص کی شکل بھی بنائے دائیں طرف نموشلخ اور بائیں جانب برھیولا اور اس کے سر کے اوپر **(خلشوعن الویھوت)** پھر جو مقصد ہو وہ نیچے تحریر کریں اس لوح کو بخور دیکر اس کے گھر میں دفن کر دے تو مقصد پورا ہوگا



پندرہواں اسم (بَرْهَیُولا)

☆...عاملین و کاملین فرماتے ہیں کہ یہ اسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسبیح ہے اور اس کے خواص یہ ہیں کہ اگر کوئی مال تجارت کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی چاہتا ہو تو طلسم مثلث میں اس اسم کو لکھے اور پھر اس کے ارد گرد بھی اسی اسم کو تحریر کرے اور پھر اسے

کاروبار کی جگہ لٹکائے، مقصد پورا ہوگا،

برھیولا ۷۸٦ برھیولا برھیولا

برھیولا	برھیولا	برھیولا
برھیولا	برھیولا	برھیولا
برھیولا	برھیولا	برھیولا

برھیولا برھیولا برھیولا

☆... اگر کسی امر کے بارے میں خواب میں آگاہی حاصل کرنا چاہیں تو دو رکعت نماز نفل پڑھ کر سات مرتبہ یہ کہے برھیولا اور اس نقش کو سر کے نیچے رکھ کر سو جائے، طلسم یہ ہے۔

برھیولا برھیولا ۷۸٦ برھیولا



ب ر ھ ی و ل ا

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکار روڈ نزد جامع مسجد محمدی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

سولھواں اسم (بَشْکَیْلَخٍ)

☆... اگر کوئی سوموار یا بدھ کے روز اس اسم کو ۱۴ مرتبہ مع ان کلمات کے لکھے اور پھر آشوب چشم والے یا کینسر والے مریض کے گلے میں ڈال دے تو مریض صحت مند ہو جائیگا

☆... کوئی شخص غم اور دکھ میں ہر رات (۱۰۰) مرتبہ پڑھے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ دکھ وغم سے نجات پائے گا، قرض والے بھی پڑھ سکتے ہیں **بشکیلخ** ۱۴ مرتبہ تحریر کریں یا

ناظری یقوب اعید کما بما استعاذبہ اذ مسہ الکمو قمیض و یوسف اذ جاء البشیر بہ بحق یعقوب قاذھب ایھا الرمد

☆... اگر کوئی اس طلسم کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے ہمیشہ سورج نکلنے سے پہلے اس کو دیکھے رزق میں برکت خوب ہو، اگر کسی نے مطلوب کو اپنے قدموں میں ڈالنا ہو یا ہمیشہ دل کے قریب رکھنا ہو تو اس طلسم کے نیچے اپنا مقصد لکھے اور وزن کے نیچے رکھ کر سو جائے تین دن میں مطلوب آپ کے پاس حاضر ہوگا، پھر کبھی جدا نہ ہوگا،



الحب فلاں بن فلاں علیٰ حب فلاں بن فلاں

ستارہواں اسم (قَزْمَزٍ)

☆... یہ اسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسبیح ہے خواص اس کے یہ ہیں کہ جو شخص اس اسم کو مع مندرجہ ذیل طلسم کے ریشمی نیلے رنگ کے کپڑے پر لکھے اور پھر اسے ایسے بکس میں رکھے جہاں روپے رکھے جاتے ہوں اور پھر اس کے ساتھ درخت انار یا امرود کی ٹہنی بھی رکھے پھر اس پر پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ بکس میں روپے ختم نہ ہوں گے، اور خوب برکت ہوگی،


قزمزٍ
قزمزٍ
۷۸۶
قزمزٍ
قزمزٍ
بشکیلخ
قزمزٍ
بشکیلخ

طلسم کے پچھلی طرف یہ نقش لکھیں

قزمزٍ

۱۵۵۵	۵	۱۵
۵	۱۵	۱۵۵۵
۵	۱۵۵۵	۵

بشکیلخ

اٹھارہواں اسم (انُغَلَلِیطٍ)

☆...اس اسم کو ۸۰۰ [illegible] سورۃ نیل [illegible] کر کوری ٹھیکری پر لکھ کر [illegible] سفوف کرے اور پھر دشمن کے گھر میں پھینک دے پس گھر میں رہنے والے بیمار ہو جائیں گے، اگر اس طلسم کو کوری ٹھیکری کے پچھلی طرف لکھ دیا جائے تو سونے پر سہاگہ ہوگا۔ اس طلسم کو سحر و جادو کیلئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، طلسم یہ ہے۔


ا ن غ ل ل ی ط
۷۸۶
ا ن غ ل ل ی ط
لو
انغلیط
انغلیط
ا ن غ ل ل ی ط
ا ن غ ل ل ی ط

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد [illegible] تحصیل میلسی [illegible] شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

انیسواں اسم (قَبرَات)

☆...اس اسم کو آیت کے ہمراہ ۹ مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، **فالیوم ننجیک بیدثک۔**

☆...اگر کوئی روزانہ (٦٩١) مرتبہ پڑھے تو اسے عوام ہمیشہ اچھی نظروں سے دیکھیں،



بیسواں اسم (غیاھَ)

☆...اس اسم کو سرخ روشنائی سے نوے (۹۰) مرتبہ لکھ کر کثرت حیض والی عورت کو عرق گلاب میں پلائے دیں تو انشاء اللہ شفا ہوگی، اور ناف پر باندھے "دبستم از خونِ رواں رحم"

☆...اگر کسی کاروبار باندھنا ہو تو (۱۰۱۷) مرتبہ اس اسم کو لکھیں اور اس کاروبار کا نام بھی اور مرد مع والدہ کا نام لکھ کر اس کی کاروبار والی جگہ میں دفن کر دیں جہاں سے گاہک اندر آتے ہوں گاہک آنا بند ہو جائیں گے، اس طلسم کو لکھ کر حیض والی عورت کو تین ٹائم پلائیں۔


غ
ی
۷۸٦
ا
ہ
ا
غیاھا
غیاھا
ا
ہ
ا
غ
ی

اکیسواں اسم (کَیۡدَھُوۡلا)

☆... اگر اس اسم کو (۷٦) مرتبہ پڑھ کر آسیب زدہ مریض پر دم کریں اور ساتھ یہ طلسم لکھ کر مریض کو پلا دیں اور ایسا ہی ایک طلسم گلے میں ڈالنے کو دیں انشاء اللہ شفاء ہوگی،


كيدهولا
كيدهولا ۷۸٦
كيدهولا
كيدهولا
كيدهولا
الوهديك
الوهديك
الوهديك

بائیسواں اسم (شَمۡخَاھِرۡ)

☆... اس طلسم کو صاف پلیٹ پر لکھ کر آب زم زم سے دھو کر اسے حشرات الارض کی بلوں پر چھڑک دیں تو تمام کیڑے مکوڑے وہاں سے بھاگ جائیں گے، دوبارہ نہ آئیں گے۔

☆... اس اسم کو (۱۱۵٦) مرتبہ تلاوت کریں پھر پانی پر دم کر دیں وبائی امراض کے مریضوں کو یہ پانی پلائیں اور وبائی امراض کے مریض کے گلے میں یہ طلسم ڈالیں۔


شمخاهر
شمخاهر ۷۸٦
شمخاهر
شمخاهر
شمخاهر
شمخاهر

تئیسواں اسم (شَمُخَاهِيُرٍ)

☆...شرف مشتری میں اس اسم کے طلسم کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھیں انشاء اللہ مال و دولت کم نہ ہوگی اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ بھی اس طلسم کو اپنے پاس محفوظ رکھے انشاء اللہ جلد شادی ہو جائے گی


شمخاهير
۷۸٦
شمخاهير
شمخاهير
یہاں اپنا مقصد لکھیں
شمخاهير

چوبیسواں اسم (شَمُهَاهِيرٍ)

☆...اس اسم کو ۲۰۰ مرتبہ لکھا جائے اور پھر آیت عدو لکھی جائے پھر دونوں شخصوں کے نام مع والدہ کے بھی ساتھ تحریر کریں جن کے درمیان عداوت ڈالنا مقصود ہو پھر اس کو کسی پرانی قبر میں دفن کر دیں پس دونوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہو جائے گی، آیت یہ ہے ”

والقینا بینھم العدوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ۔

☆... کسی روح کو حاضر کرنا مقصود ہو تو اس طلسم کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ایک ہزار مرتبہ یہ تلاوت کرے "**ان کنتم حضر تم ایھا الارواح فارونی من شعاع نور کم فانہ یخرج نور کشعاع الشمس**" پس تمارے پاس ارواح میں سے "فا رونی" حاضر ہو جائے گی اور دنیاوی کاموں میں معاون ثابت ہو گی۔



پچیسواں اسم (بَکَیَطَھُوْیَہٗ)

☆... شرف مشتری میں اس اسم کو تانبے کی لوح پر کنندہ کریں اور ساتھ ہی اس اسم کا طلسم لوح کی دوسری طرف کنندہ کریں اپنے پاس محفوظ رکھیں انشاءاللہ ترقی کے منازل طے ہونگے، افسران بالا کے سامنے عزت ہو بھوک کی کمی محسوس نہ ہو گی،

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052


بکھطھونیہ
۷۸٦
بکھطھونیہ
بکھطھونیہ
بکھ
طھو
نیہ
بکھ
طھو
نیہ
بکھطھونیہ
بکھطھونیہ
بکھطھونیہ

چھبیسواں اسم (بِشارِش)

☆...اس اسم کو (۸۰۰۳) مرتبہ روزانہ تلاوت کریں تو تھوڑے عرصہ کے بعد وہ سیف زبان ہو جائے گا، نفسانی، خواہشات سے اس کا نفس رک جائیگا اور باطن روشن ہو جائیگا، اس طلسم کو گلے میں ڈالنے سے برکت ہوگی،


بشارش
۷۸٦
بشارش
بشارش
بشارش

ستائیسواں اسم (طُوُنَشٍ)

☆...اگر بچہ زیادہ روتا ہو تو سورۃ فاتحہ کے بعد اس اسم کو اس طلسم کے نیچے لکھے ساتھ بچے کا نام مع والدہ بھی لکھے اور بچے کے گلے میں ڈال دیں بچہ رونا بند کر دے گا، طلسم یہ ہے


طونشٍ
۷۸۶
طونشٍ
طونشٍ
طونشٍ

اٹھائیسواں اسم (شَمُخَابَارُوخٍ)

☆... اس اسم کو (۱۱۱) مرتبہ لکھے اور پانی میں ڈال کر سحر زدہ مریض کو پلاتے رہیں تو مکمل صحت ہوگی،

☆... اگر کوئی شخص حاجت کو پورا کرنے کیلئے تلاوت کرے تو سورۃ یٰسین شریف ایک مرتبہ پھر اسم کو (۱۱۱) مرتبہ تلاوت کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، انشاء اللہ حاجت پوری ہوگی،

☆... اگر کاروبار میں نفع حاصل کرنا منظور ہو تو اس طلاسم کو لکھ کر کاروبار والی جگہ پر لٹکائیں


شمخاباروخ
شمخاباروخ
۷۸۶
شمخاباروخ
ش م خ ا ب ر و خ
ش م خ ا ب ر و خ
شمخاباروخ
شمخاباروخ
شمخاباروخ

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

★...خوشخبری...★

کوئی دعا بر ہتیہ کا عامل بننا چاہتا ہے تو صفحہ نمبر (۸) پر دیئے گئے رکنیت فارم کو پر کر کے ارسال کریں ہمراہ جوابی لفافہ بھیجیں اجازت نامہ بذریعہ ڈاک ارسال کر دیا جائیگا، اگر کوئی دعا بر ہیہ وطلسم اور نقوش کی خصوصی اجازت کا طلب گار ہے تو ہدیہ عمل ادا کر کے خصوصی اجازت بھی لے سکتا ہے۔ بشکریہ!

ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ سرکلر روڈ نز د مدنی مسجد میلسی

باب دوئم

"تشخیص کا روحانی طریقہ"

بعض عاملین کو تشخیص کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح تشخیص کی جائے، ایسے عاملین کیلئے ہم نے کچھ عمل ان کی آسانی کیلئے لکھ دیئے ہیں جو طریقہ اچھا لگے اس طریقہ سے مرض کی تشخیص کرلیں آیا کہ آنے والے مریض کو کیا مرض ہے، جنات ارواح، خبیثہ، گفتار، نظر بد یا سحر جادو کوئی جسمانی بیماری ان سب کا پتہ لگانے کیلئے یہ نہایت مخفی اور پوشیدہ راز ظاہر کیا جارہا ہے، ان روحانی طریقوں کی تشخیص سے تمام رنج وغم اور حزن والم معلوم ہوجاتے ہیں اور پھر علاج کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔

حالت مریض: اگر دریافت کرنا ہو کہ مرض کیا ہے تو مریض کا نام مع والدہ یا والد کے اعداد لے کر پھر موجودہ دن کے اعداد (عربی دن) لیکر اس میں قانون کے دس جمع کریں پھر (۷) پر تقسیم کریں، اگر باقی ایک رہا تو اثر جن، ۲ بچیں تو اثر بد ہے، ۳ بچیں تو سحر ہے، ۴ بچیں تو نظر بد ہے، ۵ بچیں تو فساد خون ہے، ۶ بچیں تو غلبہ صفرا ہے اگر ۷ بچیں تو غلبہ سودا

ہے،

دوسرا طریقہ تشخیص

اگر کسی مریض کا مرض معلوم کرنا ہو تو اس عمل کو کریں ایک گلاس میں پانی بھر لیں چاروں قل شریف ۴ مرتبہ، سورۃ فاتحہ ۴ مرتبہ آیت الکرسی چار مرتبہ اول و آخر درود شریف ۳ مرتبہ پڑھ کر دم کریں پھر مریض کو پانی پینے کیلئے کہیں، جیسے ہی مریض پانی کی پہلی گھونٹ بھرے تو اس سے معلوم کرے کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے، اگر مریض کہے کہ پانی کا ذائقہ کڑوا ہے، تو اثر جنات ہیں، اگر کہے کہ پانی کا ذائقہ میٹھا ہے تو اثر سحر و جادو ہے اگر یہ کہے کہ پانی کا ذائقہ عجیب سا ہے تو اس پر اثر باد ہے، اگر کہے کہ پانی کا ذائقہ بلکل ٹھیک ہے جس طرح پانی ہوتا ہے اسی طرح ہے تو اس مریض کو مرض بدن ہے۔

تیسرا طریقہ تشخیص

آئے ہوئے مریض کے مرض کو معلوم کرنا مقصود ہو تو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے پیمائش کریں کہ قد کتنا ہے پھر دیوار پر مریض کے سر سے پاؤں تک ایک لائن کھینچیں اس پیمائش کو اپنے ذہن میں زیادہ رکھیں، سورۃ الناس ۱۱ مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کریں، اگر لائین بڑھ جائے تو جادو سحر کا حملہ ہے، اگر پیمائش برابر ہو تو مرض بدن ہے۔،

چوتھا طریقہ تشخیص

یہ طریقہ میرا مجرب المجرب ہے میں اکثر اس طریقہ تشخیص کرتا ہوں یہ عمل میں نے حروف صوامت سے تیار کیا ہے، جو بالکل درست ثابت ہوا ہے، اس طریقہ سے اگر مریض کا مرض معلوم کیا جائے تو مریض کا مرض بھی جڑ سے ختم ہوتا ہے، اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ اس نقش کو مریض کو کھانے کو دیں اس کو کہیں کہ اس نقش کو اچھی طرح

چبائے پھر پانی کی ایک گھونٹ سے گلے میں اتار لے، کچھ دیر مریض کو بیٹھنے دیں، کچھ ہی لمحہ کے بعد مریض کی حالت خراب ہونا شروع ہو جائیگی کبھی کبھار مریض کو قے آتے ہی بیہوشی ہو جاتی ہے، اور ۱۰ منٹ کے بعد خود بخود ہوش میں آجاتا ہے، یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ آنے والے مریض کے ساتھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان کی پریشانی ختم کرنے کیلئے سورۃ فاتحہ اور چاروں قل کی تلاوت کر کے مریض کے جسم پر چھینٹے ماریں تا کہ دوسروں کو کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ انہیں پہلے ہی سمجھا دیں تو بہتر ہے، ہوش میں آنے پر مریض دوسرا نقش لکھ کر پھر دیں اس طرح تین نقش کھلائیں تو مرض مکمل ختم ہو جائیگا، بعض دفعہ مریض کو قے تو نہیں آتی بلکہ ابکائی آتی ہے یا پھر جسم میں خارچ شروع ہو جاتی ہے، اکثر کو تو جسم بھی وزنی معلوم ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، نقش نمبر ا یہ ہے

ارکل دم ہس
وع ح ص ط

(ا) اگر قے آئے یا بیہوشی ہو تو اثرات جن ہے کسی خطرناک جن نے مریض کو جکڑ رکھا ہے، (۲) اگر ابکائی آئے یا جسم پر خارش ہو تو مریض پر اثر سحر جادو ہے، (۳) اگر آنکھوں سے آنسو آئے تو مریض پر اثر باد ہے، (۴) اگر بیٹھے بیٹھے عجیب سی حرکتیں کرے تو اس کو جسمانی مرض ہے (۵) جیسے ہی مریض کو ہوش آجائے تو نقش نمبر ۲ مریض کو کھلائیں۔ دس منٹ کے وقفہ سے مریض کو دوبارہ نقش نمبر ا ایک کھلائیں انشاء اللہ مرض جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا نقش نمبر ۲ یہ ہے

ط ص ح ع و
س ہ م دل ک را

نوٹ: انہی نقوش کو تیل سرسوں میں ڈال کر مریض کی مالش بھی ۱۱ دن تک کرتے رہیں، مزید تشخیصی مراحل کیلئے ادارہ سے رابطہ کریں۔ تشخیص نمبر ۴ کی اجازت لینا ضروری ہے بغیر اجازت اپنے کام میں نہ لائیں اجازت لینے کیلئے ہمارے ادارہ کا رکنیت فارم پر کریں اور اجازت عمل کیلئے سادہ کاغذ پر عمل کا نام تحریر کر کے جوابی لفافہ ہمراہ ارسال کریں۔

ضروری نوٹ : عزیمت یا نقش و طلسم لکھنے کے بعد دعا بر ہیہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں، ایسا نہ کرنے پر عزیمت نقش یا طلسم کام نہیں کریں گے۔

باب سوئم

”سحر جادو کا عملیات سے علاج“

جنات، سایہ، جادو ٹونہ آسیب درد جسم کیلئے

جس گھر میں جنات شرارت کریں یا سایہ جادو ٹونہ کے اثرات موجود ہو تو اگر کسی کو جادو ٹونہ کی وجہ سے جسم میں درد ہو استاد محترم جناب سجاد عباس کا مندرجہ ذیل عمل کریں انشاء اللہ تعالیٰ جنات بھاگ جائیں گے، اس عمل کو کئی بار تجربے میں لایا گیا ہے، (ترکیب یہ ہے) جادو، ٹونہ سایہ، جنات، آسیب یا درد جسم کیلئے عبارت کو سات مرتبہ پڑھ کر اور آہستہ سے کہنا ہے، ”چاروں مؤکلوں کو حاضر کرو، اس کی جو تکلیف ہے پکڑو اور پکڑ کر لے جاؤ“۔ مریض کو سامنے بٹھا کر اس عبارت کی ضرب دینا ہے پھونک نہیں مارنی مریض کو ہاتھ بھی نہیں لگانا صرف حکم میں ضرب دیں،

کسی عامل ظالم سے عمل کھینچا ہو تو

یہ عبارت سات مرتبہ پڑھ کر اور آہستہ سے کہنا ہے ”چاروں موکلوں کو حاضر کرو اور اس عامل کے عمل کو کھینچ کر لے جاؤ“، اور عبارت عمل ہے۔

اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے تخت کے بیچ میں تخت کے گرد چار جاندار ہیں جن کے آگے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند ہے تیسرے جاندار کا چہرہ اور انسان کی مانند ہے چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے ان چاروں جانداروں کے چھ چھ پر ہیں چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں رات دن بغیر آرام کئے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس قدوس قدوس خداوند خدا قادر مطلق اور قدرت کے لائق ہے جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے جب وہ جاندار اسکی تمجید، عزت اور شکر گزاری کریں گے، جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالاباد زندہ رہے گا تو وہ چوبیس بزرگ ان کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑئیں گے، اور اس کو یہ سجدہ کریں گے جو ابدالاباد رہے گا اپنے سروں کے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے خداوند خدا تمجید، عزت اور قدرت لینے کے لائق ہے کیونکہ تو نے سب چیزیں پیدا کیں اور تیری مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئی ہیں، (زکوٰۃ)۔ اس عمل کی زکوٰۃ صرف ۱۱ مرتبہ پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے زکوٰۃ عمل پورا کرنے کے بعد پھر اس عمل کو کام میں لائیں۔

جس گھر میں جنات نے ڈیرہ ڈال لیا ہو۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد خضریٰ تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph:0307-5908474, 0322-6865052

بعض مرتبہ جنات گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں یا پھر ڈھیلے اینٹ اور پتھر پھینکتے ہیں، تا کہ گھر والے پریشان ہو کر گھر چھوڑ کر چلے جائیں اسماء اصحاب کہف بعبارت لکھیں اور ہمراہ نقش میں لکھ کر مشرقی دیوار پر چپکا دیں، انشاء اللہ تعالیٰ جنات گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور نہ ہی اینٹیں اور پتھر آئیں گے، عمل اصحاب کہف یہ ہے

”اِلٰهِی بِحُرْمَةِ یَمْلِیْخَا مَكْسَلْمِنَا كَشْفُوْطَطْ، طَبْیُوْنَس كَشَا فَطْیُوْنَس، یَوَانَس بُوْسِ وَكَلْبُهُمْ قِطْمِیْرٍ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِیْلِ

وَمِنْهَا جَائِرٌ، وَلَوْشَاءَ لَهَدَكُمْ اَجْمَعِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ"

بسم اللہ الرحمن الرحیم

٢	٤	٦	٨
٨	٦	٤	٢
٤	٢	٨	٦
٦	٨	٢	٤

جنات کو گھر سے باہر نکالنا

جس گھر میں جنات ہوں اور انکو گھر سے باہر نکالنا مقصود ہو تو حسب ذیل حروف سیاہ بکرے کی جھلی پر تحریر کر کے اس مکان میں دفن کردیا جائے انشاء اللہ جنات گھر سے باہر نکل جائیں گے۔ (حروف یہ ہیں)۔

"اک ح ووقال وح ون و ح رح وح بن ح رج کص دوو ☆ ااام ا = اا"

حاملہ عورت کو اگر آسیب نظر آتے ہوں۔

اگر کسی حاملہ عورت کو آسیب نظر آتے ہوں تو اس نقش کو لکھ کر مکان کی مغربی دیوار میں لگادیں بچہ پیدا ہونے سے ۴۱ روز پہلے یہ نقش لکھیں انشاء اللہ چالیس روز کے اندر عورت کو نظر اور آسیب اور بچہ کو ام الصبیان نہ ہوگا، اور یہ نقش عدد سورۃ قل کا ہے ہر معاملہ میں یہ نقش کام دیتا ہے۔ بچہ اور عورت کے گلے میں ڈالیں۔

٧٨٦

٧٢ ١٦	٨٦ ١٦	٨٣ ١٦	٧٩ ١٦
٨٤ ١٦	٧٨ ١٦	٧٣ ١٦	٨٥ ١٦

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد ... تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

۷۷ ۱۶	۸۱ ۱۶	۸۸ ۱۶	۷۴ ۱۶
۸۷ ۱۶	۷۵ ۱۶	۷۶ ۱۶	۸۲ ۱۶

مکان میں پتھر آنا۔

جس شخص کے مکان میں پتھر یا اینٹ آتے ہوں یہ نقش لکھ کر مشرقی دیوار پر لگا دیں پھر ہرگز ہرگز پتھر نہ آئیں گے، انشاء اللہ۔ نقش یہ ہے۔



جس کسی پر پری کا سایہ ہو

اگر جس کسی شخص پر پری کا سایہ ہو اور علاج کر کر کے تنگ آ گیا ہو تو اس کیلئے یہ ایک خاص تحفہ ہے یہ نقش حروف صوامت سے ترتیب دیا گیا ہے اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں اور دوسرا پینے کیلئے دیں انشاء اللہ کبھی بھی پری کا سایہ قریب نہ آئے گا،

[redacted]

اصل یہ درود پاک ہے اس کو اس کام میں بھی استعمال کرتے ہیں درود لکھتے

وقت زیر زبر پیش شد مد کا خاص خیال رکھتے ہوئے تحریر کریں،

جادو ٹونہ سایہ و ہر مرض کا علاج

جادو ٹونہ اور سایہ کے مریض کو یہ نقش چینی کی پلیٹ پر لکھ کر سات دن تک پلائیں یہ نقش ہر مرض میں بھی دیا جا سکتا ہے اس نقش کو وہ عامل تحریر کرے جس نے سلام قول من رب رحیم کی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم

۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	[illegible]	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۴	۵	۱۰

سلام قولا من رب رحیم

اگر کسی کا کاروبار جنات و بلیات کی وجہ سے بند ہو

اگر کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہو اور ہر حربہ کرنے کے بعد نہ چلتا ہو تو اس خاص طلسم کو محفوظ طریقے سے فریم کرا کے گھر یا دوکان، فیکٹری میں آویزاں کریں انشاء اللہ برکت ہوگی کاروبار خوب چلے گا، اس طلسم سے بیماری سے تحفظ دفاع جنات و بلیات آگ وزلزلوں کی تباہی سے بچاؤ ہوگا، طلسم یہ ہے،

بسم الله الرحمن الرحيم

الا=١١١٩   ١١١٩الا = ١١١ محطے

اَلرَّزَّاق

گھر میں خون کے چھینٹے آنا

اگر گھر میں خون کے چھینٹے سنگباری (پتھر) گندگی کپڑوں وغیرہ کا کٹ جانا، پایا جائے تو مکان کے چاروں کونوں میں لوہے کے کیل لیکر ہر کیل پر (۲۵) مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کریں اور نظر بد والا نقش ہر کیل کے ساتھ مکان کے کونے میں ٹھونکیں، کیل ٹھونکتے وقت پہلے صبح کی اذان پھر اقامت پڑھیں یہ عمل چاروں کونوں میں کرنا ہوگا، آیت مبارکہ یہ ہے، ''**انهم يكيدون كيدا۔۔۔۔۔۔ رويدا**،، مکمل پڑھیں۔ (سورۃ طارق)، نقش یہ ہے۔ "**بسم اللّٰه الرحمن الرحيم وما انفقتم من نفقة او نزر تم من نذر فان اللّٰه يعلمه وما للظلمين من انصار، بسم اللّٰه الرحمن الرحيم بسم اللّٰه الذى لا يضر مع اسمه شيئٍ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم بسم اللّٰه الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثت فى العقد و من شر حاسد اذا حسد بسم اللّٰه الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس**"

چڑیل کے بداثرات

اگر کسی پر چڑیل کے بداثرات ہوں اور ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہتا ہو تو ایسے مریض کو یہ طلسم لکھ کر دیں، اس طلسم سے چڑیل کبھی بھی نزدیک نہیں آئے گی،

[redacted]

جنات کے متاثرہ مریضوں کا علاج (مجرب المجرب)

جنات کا علاج کرتے وقت تین قسم کے مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے (۱) ایسے مریض جن پر صرف اثرات ہوں، (۲) ایسے مریض جن پر اثرات کے ساتھ جن بھی موجود ہو لیکن حاضر نہ ہوتا ہو (۳) ایسے مریض جن پر اثرات کے ساتھ جن بھی موجود ہو اور حاضر بھی ہوتا ہو، البتہ پہلی دو قسم کا علاج عموماً ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن تیسری قسم کا علاج بھی الگ طریقے سے کیا جاتا ہے ان اعمال کو پہلی اور دوسری قسم کیلئے خاص سمجھیں لیکن تیسری قسم میں بھی شروع کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، (عملیات یہ ہیں)۔

(۱) جس پر جنات کا اثر ہو اس پر سورۃ مزمل درج ذیل طریقے سے پڑھ کر صبح وشام مسلسل دم کرتے رہیں پوری سورۃ پڑھتے ہوئے ان الفاظ کا تین مرتبہ تکرار کریں دائیں پاؤں کو بائیں ران پر رکھ کر تکرار کرنا ہے (۱) رب المشرق والمغرب لا الہ الا ھوا فاتخذہ وکیلا (۲) واللہ یقدر الیل والنھار۔ (۳) واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔

عمل نمبر ۲ = (۱) سورۃ فاتحہ ... ۷ مرتبہ۔ (۲) الم سے لیکر مفلحون تک (بقرہ ۱۔۵) سات مرتبہ۔ (۳) والصفت صفا... لازب (صفت ۱۔۱۱) سات مرتبہ۔ (۴) امن الرسول تا آخر (سات مرتبہ)۔ (۵) یا معشر الجن... ربکما تکذبن (رحمن ۳۳ ـ ۲۴) سات مرتبہ، (۶) سورۃ اخلاص سات مرتبہ (۷) معوذتین سات مرتبہ یہ سب پانی پر دم کر کے آسیب زد کو (۲۱) دن پلائیں، اور مریض کے گلے میں یہ نقش لکھ کر ڈالیں، انشاء اللہ آسیب سے نجات حاصل ہو گی، یہ نقش مجرب المجرب ہے۔ نقش یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قول من رب رحیم

۳۵۰۹	۳۵۲۲	۳۵۱۹	۳۵۱۶
۳۵۲۰	۳۵۱۵	۲۵۱۰	۳۵۲۱
۳۵۱۴	۳۵۱۷	۳۵۲۴	۳۵۱۱

۳۵۲۳	۳۵۱۲	۳۵۱۳	۳۵۱۸

فیہ شفآء للناس

[redacted]

[redacted]

فلیتے کے ذریعے علاج

یہاں دو فلیتے دیئے جا رہے ہیں ان کو جلانے سے جنات جلتے تو نہیں بلکہ جسم کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، (۱) یہ فلیتہ باوضو لکھ کر اس پر نئی روئی لپیٹ کر کورے مٹی کے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں بوقت مغرب اور مریض کو چراغ کے سامنے باوضو بٹھائیں، وہ فلیتے کو جلتا ہوا دیکھے، فلیتہ یہ ہے۔


شداد
هامان
عصد
۱
۳
۵
۴
۲
۷
۹
۸
فرعون
عمبــــــــــــه
نمرود
شداد نمرود هامان فرعون

دوسرا فلیتہ اس فلیتے کو بھی بنا کر چراغ میں جلانا ہے شروع کرنے سے پہلے اس کے کئی فلیتے تیار کر لیں اور ایک کے بعد ایک جلاتے رہیں یعنی ۱۱ فلیتے بنانا ہوں روزانہ کے، جبکہ فلیتہ نمبر ۱ ایک دن استعمال کرنا ہے

(فلیتہ نمبر ۲ یہ ہے)

ابلیس	شداد	نمرود	فرعون	ھامان
قارون	ھاروت	ماروت	یاجوج	ماجوج

مریض کو جنات کے دورے پڑنا

اگر جس کسی مریض کو جنات کے دورے پڑتے ہوں تو یہ نقش انتہائی مفید و مجرب ثابت ہوا ہے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر دورے کے مریض کو روزانہ ایک مرتبہ پلانا ہے یہ نقش مریض کو ۱۰ دن تک ضرور پلائیں تا کہ مرض جڑ سے ختم ہو جائے، نقش یہ ہے۔


لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ
بسم
لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ
لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ
ابوبکر صدیق
عمر فاروق
عثمان غنی
افحسبتم انما خلقنا کم عبثا
و انکم الینا لا ترجعون رب انی مسنی
الضر وانت ارحم الرحمین رب ان اعوذبك
من همزات الشیاطین و اعوذبك رب
ان یضرون رب انی مغلوب فانتصر

نقش نمبر ۲ یہ نقش لکھ کر مریض کے جسم پہ مسیں اور ااجوے، ماریں بعدہ اس نقش کو مریض کے سامنے جلادیں (نقش یہ ہے)


ھامان
فرعون
شیطان
شیطان
فرعون
فرعون
ھامان
شیطان

رات کو سوتے ہوئے ڈرنا

جو شخص، عورت، بچہ رات کو ڈرتا ہو اور چونکتا ہو یا گھبراتا ہو تو اس فلیتہ کو باوضو لکھیں اور اس کی دھونی مریض کے جسم کو دیں اور ناک میں بھی دھواں پہنچے، فلیتہ یہ ہے۔

فرعون ھامان نمرود شداد وعاد ثمود

ابلیس اجمعون فی نار خالدون

ھ ھ ھ	ھ ھ ھ
۱۱ ۱۱ ۱۱	۱۱ ۱۱ ۱۱

جمھر جمھا یرون بحق اھیا اشراھیا

بحق علیقا ملیقا طلبقا انت تعلمون

ما فی قلوبھم علیقا۔

جنات کو بھگانا

اس فتیلہ کو لکھ کر سرسوں کے تیل میں کورے چراغ میں روشن کریں اور مریض اس کی روشنی کو دیکھتا رہے ختم ہونے کے بعد چراغ بحفاظت رکھے اور دوسرے روز اور تیسرے روز بھی اس طرح عمل کرے، ان کو روشن کرنے کا وقت بعد نماز مغرب ہے بالکل تنہائی میں اسے روشن کیا جائے۔ فتیلہ یہ ہے۔



۲۱	۳۴	۳۱	۲۸
۳۲	۲۷	۲۲	۳۳
۲۶	۲۹	۳۶	۲۳
۲۵	۲۴	۲۵	۳۰

ہانڈی کا خاص عمل

عزیمت کو اکیس ۲۱ مرتبہ پڑھ کر اڑھائی مٹھی آرڈ لے کر ان پر دم کرے اور ایک مٹی کی ہانڈی میں یہ دال آرڈ اور نقش حوا ڈالے اور مٹی کے ڈھکن سے بند کر کے آٹے

کو گیلا کر کے اس کے سوراخوں کو بند کر دے، ڈھکن اور ہانڈی کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے ہانڈی کو بند کریں پھر مریض کے چاروں طرف گھمائیں بعدہ ہانڈی کو چولہے پر رکھے اور آگ جلائے، ہانڈی کو جب دو تین جوش آجائیں تو نیچے اتار لیں، ٹھنڈی ہونے پر نہر میں یا دفن کریں، کسی ویران جگہ پر، اگر گھر کا آدمی ہاندی دفن کرے تو ایک گھنٹہ تک اپنے گھر میں داخل نہ ہو، ہو سکے تو کسی حمام پر جا کر غسل کرے تو بہتر ہو یہ عمل تین دن یا پانچ دن کرنا ہوگا، اگر کوئی کسر رہے تو اس عمل کو ۱۱ دن مکمل کریں۔ عزیمت یہ ہے

”بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچه قسم دیو بهوت قسم چڑیلاں ڈائن ڈائنی جن جوگئی حور پری دیو پری سبز پری زرد پری مرگهٹ مسان پیار مسان سوکها مسان مثائی بسانی جادو ناد نگه یا نر کهه لاگا لگایا یا کیا کرایا بالٹا لپٹایا هوا اگر ندی نالا باغات وغیره سایه انداخته مذلت شده باشد بحکم رب الجلیل بحکم پیران پیر محی الدین در سبوچه گلے یعنی در هانڈی داخل شد بسوزدا گرنه گریز دور فیها غیر حاضر حاضر ببا شد گرفته بیاریدو هر قدر آزارے و آزار بوده باشد دفع شود بحق العجل العجل العجل الساعة الساعة علیقًا ملیقًا طلیقًا انت تعلم صافی قلوبهم بذ بنهم اتوب علیه“

نقش یہ ہے۔



۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۴	۵	۱۰

سوختم سوختم سوختم
جن دیو پری چڑیل خبیث گذت مسان کچا مسان پکا
مسان الکھا مسان لاگا مسان ہر چہ در وجود فلاں بن فلاں
مزاحمت پذیر سوختہ گردد و مرد بحق خاتم سلیمان بن داؤد
علیہما السلام

ہانڈی کا خاص عمل نمبر ۲

ہانڈی والے عملیات بڑے علاج میں آتے ہیں جس طرح ڈاکٹری میں آپریشن بڑا علاج ہے اسی طرح عملیات میں بھی بڑے علاج ہوتے ہیں اور ایسے تمام عملیات بغیر ہدیہ نہیں کرنے چاہیں، ورنہ رجعت کا خطرہ رہے گا، اس بات کا کئی عاملین تجربہ کر چکے ہیں، اور اکثر دو نمبر عاملین اپنی روزی بنانے کی خاطر یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ جلد ہی ہانڈی کا عمل مریض پر کر دیتے ہیں جس سے اکثر مریض بعد میں بہت پریشان ہوتے ہیں بعض دفعہ مریض بگڑ جاتا ہے اور مریض کسی اور جگہ پر چلا جاتا ہے مگر مریض کے ساتھ ایک ظلم ہو جاتا ہے کہ مریض کے مخالفین کو ہانڈی میں جلایا گیا، اب ان کے متعلقین ہاتھ دھو کر مریض کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مریض کو بہت نقصان دیتے ہیں اس لئے عاملین کو چاہیے کہ اصول علاج پر عمل کرتے ہوئے مریض کا علاج شروع کریں بعد میں مناسب ہو تو ہانڈی کا عمل کرو ورنہ رقم بٹورنے کیلئے ایسا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں تو انشاء اللہ کامیابی ضرور نصیب ہوگی ایسے عمل بغیر اجازت کے نہ کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ (عمل ہانڈی یہ ہے)۔۔۔ مٹی کی کوری ہنڈیا آب نارسیدہ کے درمیان عین دوپہر کو اڑھائی مٹھی سیاہ ماش مریض اپنے ہاتھ سے ڈالے اور ان پر ذیل کی عزیمت سنہرے کاغذ پر تحریر کر کے رکھ دے اور پھر اس عزیمت کو عامل خود بھی ۱۱ مرتبہ پڑھے پھر ڈھکنے کو ماش کے آٹے سے بند کر دے اور ہنڈیا مریض کے سر سے پاؤں تک تین بار مس کریں پھر ایک شخص کو ایک جگہ جہاں آدمیوں کی آمد و رفت کم ہو، لے جا کر پتھر کا چولہا بنا کر اڑھائی کلو لکڑی نیچے جلائے تا کہ اس میں جوش آجائے جب منہ سے عرق نکلنا بند ہو تو اس ہنڈیا کو وہیں گاڑ کر وہ شخص باہر سے غسل کر کے گھر واپس آئے مریض کو فوری آرام آنا شروع ہوگا، یہ عمل ۳ مرتبہ ضرور کریں ورنہ سحر جادو واپس لوٹ کر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے

اکثر عاملین اس عمل کو ایک مرتبہ کرتے ہیں جس سے عاملین اور مریض دونوں کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے، لہٰذا اس عمل کو تین مرتبہ ضرور کریں پھر دیکھیں فائدہ کتنا ہوا، عامل بھی تندرست رہا اور مریض بھی تندرست ہو گیا، (عزیمت یہ ہے)

الحفیظ	الحفیظ	الحفیظ	الحفیظ
الحفیظ	الحفیظ	الحفیظ	الحفیظ

الحفیظ الرقیب الرقیب الرقیب الرقیب

اعوذ باللہ الواحد الصادق من شر کل طارق بحق ایاک نعدوایاک نستعین

الٰہی بحرمت این تعویذ فلاں بن فلاں را صحت دہی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ

یارب یارب یارب یاغفور یاغفور یاغفور۔

سری والا عمل (سخت سے سخت جادو اور سایہ کے توڑ کا خاص عمل)

اگر کسی شخص کو سخت سے سخت جنات اور جادو نے جکڑ رکھا ہے تو سری والے عمل سے اپنا علاج کروائے تو انشاء اللہ [illegible] گھنٹے میں مکمل شفاء ہوگی (عمل یہ ہے)

سب سے پہلے درج ذیل اشیاء منگوائیں (۱) بکرے کی سری ایک عدد۔ (۲) سندور ۱ تولہ (۳) کالی مرچ ۲۱ دانے۔ (۴) لونگ ۲۱ دانے۔ (۵) ثابت ماش 2.5 تولہ، (۶) قبرستان کی مٹی ایک چٹکی، (۷) پاؤں کی مٹی ایک چٹکی (مریض کے پاؤں کی مٹی لینی ہے، (۸) مریض کے سر کے بال چند عدد یعنی ۱۱ عدد لیں۔ نقش بامؤکل یہ ہے

۱۱۳

۱۶۱۷	۱۶۱۷	۱۶۱۱

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکل روڈ ... جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph:0307-5908474 , 0322-6865052

۱۶۱۷	۱۳۱۱	۱۸۳۱
۱۸۵۶	۱۸۱۱	۱۹۱۷

مریض کا نام مع والدہ

مذکورہ اشیاء پر درج ذیل پڑھائی کریں، (۱) یاذالطول ۲۳۰۰ مرتبہ، (۲) سورۃ فاتحہ ۷ مرتبہ (۳) آیۃ الکرسی ۷ مرتبہ (۴) چاروں قل ۷ مرتبہ، اول وآخر درود ابراہیمی ۳ مرتبہ۔

طریقہ: بکرے کی سری کے مغز والی جگہ خالی کرا کے ان تمام اشیاء پر پڑھائی کر کے مذکورہ بالا نقش و مذکورہ اشیاء مغز والی خالی جگہ پر رکھ دیں پھر اس سری کو پلاسٹک کے شاپر میں رکھ کر حصار دعاء [illegible] کا لگائیں یا پھر حصار یہ بھی لگا سکتے ہیں افحسبتم سے آخر تک ۳ مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں، پھر یہ سری قبرستان میں دفن کر دیں انشاءاللہ مریض ۷۲ گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا اور جادو و جنات کا اثر ختم ہو جائیگا (نوٹ) = سری والے عمل کا کم از کم ہدیہ مریض سے 5000 ہزار روپے لینا ہے سری والے عمل کی خاص اجازت فقیر محمد بلال نظامی سے حاصل کر سکتے ہیں۔

سخت جادو کے توڑ کیلئے بکرے کا مجرب عمل

حد سے زیادہ مایوس اور لاعلاج مریض خواہ جادو کی وجہ سے بیمار ہو یا ویسے جسمانی مرض ہو مکان دکان وزرعی رقبہ فروخت کرنا مقصود ہو تو پھر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو بھی یہ عمل کریں، بہت جلد شادی ہو جائیگی، اگر کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہو تو بھی یہ ایک انتہائی مجرب عمل ہے ایک کالا بکرا لا کر تین دن کیلئے اسے گھر میں باندھ لیں کاغذ کے تین پرچوں پر اسم الٰہی ''الممیت'' چار چار بار لکھ کر ان کاغذ پر ''یاممیت'' چار سو نوے (۴۹۰) مرتبہ پڑھ کر دم کریں مریض پر بھی دم کریں اور

اس نیت سے کریں کہ جو مرض، سحر، آسیب مسان وغیرہ مریض پر مسلط ہے اسے اللہ تعالیٰ موت سے ہمکنار کردے، پھر یہ تینوں پرچے پانی کی ایک بالٹی میں ڈال دیں اور یہ پانی بکرے کو پلائیں، اور بکرے پر اس پانی کے چھینٹے بھی ماریں، اور اس کیلئے جو گھاس چارہ وغیرہ لائیں اس پر بھی اس پانی کے چھینٹے ماریں، مریض پر جس قدر شیطانی اور سحری اثرات زیادہ ہوں گے، بکرا اس قدر پانی پینے سے انکار کرے گا اور چھینٹے مارنے پر چیخ و پکار کریگا، اگر آپ دیکھیں کہ تعویذ والا پانی بکرا بالکل نہیں پی رہا اور اتنا وقت گذر گیا ہے کہ اب اگر اسے پانی نہ پلایا گیا تو وہ مرجائے گا تو اس صورت میں اسے عام نلکے کا پانی پلا سکتے ہیں لیکن اس پانی کے چھینٹے ہر صورت اس پر مارنے ہیں، اس پر وہ جتنی چیخ و پکار کرے، اس کی پرواہ نہ کریں، تین دن تک یہ عمل دن میں تین تین مرتبہ دہرائیں اس طرح نو دفعہ مریض پر دم بھی ہوگا اور یہ عمل تین دن کرنا ہے، چوتھے دن بکرے کو ذبح کرکے اس کا سر جسم سے الگ کرلیں، اور سر اور دھڑ دونوں کسی ویرانے میں گڑھا کھود کر دفن کر دیں، اس بکرے کا گوشت کسی انسان یا جانور کو نہ کھانے دیا جائے اس کی تدفین کے ساتھ ہی مریض کی صحت مندی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوجائیں گے، میں نے یہی اس عمل کو مکان کی فروخت میں کیا تھا عمل سے قبل مکان کی قیمت ۱۲ لاکھ لگ چکی تھی جبکہ مالک مکان اس مکان کو ۱۶ لاکھ میں فروخت کرنا چاہتا تھا لیکن اس عمل کے بعد اس مکان کی قیمت ۲۷ لاکھ لگی اور مالک مکان نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ میرے مکان کی قیمت ۲۷ لاکھ لگ چکی ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا فوراً فروخت کردو اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک بات اور بھی بتادوں کہ مکان و دکان زرعی زمین کی فروخت میں ایک ماہ سے چھ ماہ تک کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے،

اس عمل کا طریقہ اجازت کیلئے ادارہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ!

آسیب زدہ کا علاج

یہ نقش جادو آسیب کیلئے نہایت مجرب ہے تین عدد نقش لکھیں ایک نقش مریض کے گلے میں پہنا دیں دوسرا پینے کیلئے اور تیسرا نہانے کیلئے، نہاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں نقش کا پانی کسی گندی نالی یا ناپاک جگہ پر نہ جائے، نقش کو زعفران سے لکھیں۔

۷۸۶

۲۱۸	۲۳۲	۲۲۸	۲۲۵
۲۲۹	۲۲۴	۲۱۹	۲۳۱
۲۲۳	۲۲۶	۲۳۴	۲۲۰
۲۳۳	۲۲۱	۲۲۲	۲۲۷

یا قابض اقبض جمیع اثراتِ سحر و جادو و آسیب و نظر بد بحق یا قابض

العجل العجل العجل الساعۃ الساعۃ الساعۃ الوحا الوحا الوحا

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
0322-6865052
Ph: 0307-5908474

واپسی سحر

اگر کسی نے جادو ٹونہ کیوجہ سے بندش دوکان یا کسی پر جادو ٹونا کر دیا ہو اور اگر واپس لوٹانا مقصود ہو تو یہ حضرت مولانا پیر قاضی سعید احمد سعدی صاحب کا معمول عمل ہے آپ اسی عمل سے جادو واپس لوٹا دیتے ہیں انکی طرف سے یہ عمل عملیات غلام سرور میں اشاعت کیلئے خود پیش کیا آپ کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت ہی اصل عبادت خداوندی ہے (ترکیب)۔ اس عمل کو ۲۱ مرتبہ پڑھ کر پانی اور مریض پر دم کرنا ہے اور یہ عمل تین

سے سات دن کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب جادو واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو کرنے والا عامل اپنے بچاؤ کیلئے دوبارہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے یہ عمل تین دن سے سات دن تک لازمی کرنا چاہیے، تاکہ مریض کو مکمل صحت مل جائے، (عمل یہ ہے)۔

"بجری بجری کواڑ بجری باندھو دسو دوار، بجری آئے بجری جائے سب جگہ سمائے ٹونہ جادو جو کچھ ہووئے جدھر سے آئے الٹ پلٹ ادھر کا ادھر ھی جائے جو جو کرائے سو سو مرئے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وننزل من القرآن ماھوا شفاء ورحمة للمومنین ولا یزید الظالمین الاخسارا"

اس عمل کو روزانہ ۳۳ مرتبہ پڑھیں، ۴۱ دن تک عمل آپ کے عمل میں آجائے گا، انشاء اللہ ہر طرف سے فائدہ ہی ہوگا،

جادو واپس لوٹ جائے

سفید مرغ کو باوضو ذبح کر کے اسکے تازہ خون سے ایک کاغذ پر یہ لکھیں (جادو برسا جادوگر) اور جہان مریض سویا ہو وہاں اس کاغذ کو چھت سے اس طرح لٹکا دیں کہ کاغذ مریض کے سینہ کے مقابل رہے، یہ عمل جناب قاری باسط علی نے عملیات سرور کیلئے تحفہ کے طور پر پیش کیا، قاری باسط علی صاحب اللہ الصمد کے بھی عامل ہیں (ان کا یہ عمل آگے بھی ضرور درج کریں گے تاکہ عوام الناس فائدہ اٹھا سکیں)۔ اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالے دوسرا نقش مریض کے سراہنے کے عین سینہ پر لٹکائیں انشاء اللہ جادو واپس لوٹ جائیگا،

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
0322-6865052
Ph: 0307-5908474

اللہ	للہ	لہ	ھومحمد	فقر
اللہ	للہ	لہ	ھومحمد	فقر
اللہ	للہ	لہ	ھومحمد	فقر

جادو کی واپسی

ایک تصویر بنائیں اس کے سر پر یا قہار، ابلیس لکھیں دائیں طرف یا قہار تلبیس لکھیں، بائیں طرف یا قہار فرعون، بازو دائیں میں لکھیں لسو بائیں بازو میں لسو لکھیں۔ دائیں پاؤں پر نمرود یا قہار، بائیں پاؤں پر شداد یا قہار لکھیں پیٹ پر عبارت لکھیں اور ٹانگوں میں پورا نقش ترتیب دیں روزانہ کے یہ تین نقش بنا کر مریض کو دیں مریض اپنے سر سے ۷ بار وارے اور پورے جسم پر مل لے اس نقش کو بائیں پاؤں کی طرف سے آگ لگا دیں یہ عمل ۱۱ دن کریں ان شاء اللہ جادو واپس لوٹ جائے گا، مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا،


یا قہار
ابلیس
یا قہار
تلبیس
یا قہار
فرعون
لسو
لسو
مریض کا نام مع والدہ جادو ٹونہ
آسیب سایہ بندش تعویذ بیماری
جس نے کیا جس نے کرایا واپس
کرو۔ ورنہ جلا دوں گا
العجل الساعۃ الوحا
٦ ١ ٨
٧ ٥ ٣
٢ ٩ ٤
لسو
لسو
اس نقش کو مذکورہ طرف لکھیں

واپسی جادو کیلئے

اس نقش کو لکھ کر مریض کو ۲۱ دن پلائیں اور ہر سات دن کے بعد اس نقش کے پانی سے نہلائیں، انشاء اللہ شفاء ہو گی، (نقش یہ ہے)


یا درمرائیل
یا برورج
یا جبرائیل
۱۱
۷
۲
۶
۴
۱۰
۳
۹
۸
یا رفتمائیل
یا تنکفیل

برائے آسیب ہر قسم کے جنات بھاگ جائیں

اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں بندش دکان کیلئے دکان میں لٹکائیں مجرب المجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔


یا داؤد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ للہ لہ ھو محمد فقر
اللہ للہ لہ ھو محمد فقر
اللہ للہ لہ ھو محمد فقر

حفاظت جادو

اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں اور ۱۱ دن پینے کو دیں انشاء اللہ شفاء یابی ہوگی، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللھم صلی وسلم علی سیدنا محمد والہٖ

الم	الم	المعن	الر	الر	الر
المر	المر	المر	کھیعص	طہ	طسم
طس	طسم	الم	الم	الم	الم
یس	ص	حم	حم	حمعسق	حم
حم	حم	حم	ق	ن	نام مریض

واسطے دفع آسیب

اس فتیلہ کو لکھ کر مریض کے جسم پر مس کریں اور مریض کے سامنے جلائیں انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی، فتیلہ یہ ہے۔



اس طلسم کو لکھ کر آسیب زدہ کو دھونی دیں۔ طلسم یہ ہے۔



اس طلسم کو لکھ کر فتیلہ بنا کر دھواں آسیب زدہ کی ناک میں دیں، طلسم یہ ہے۔



برائے آسیب

اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنا کر ناک میں دھونی دیں مریض ہوش میں آجائیگا، مجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔

ابلیس	فرعون	ہامان	فرعون	ابلیس
فرعون	ہامان	فرعون	ابلیس	ہامان
ابلیس	فرعون	ہامان	فرعون	ابلیس

جادو کا اثر زائل کرنا

اس نقش کو لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور پانی سات دن تک پلائیں انشاء اللہ جادو کا اثر زائل ہو جائیگا۔ نقش یہ ہے۔

یا حفیظ	یارھیم	یا حافظ
یا کریم	یا حی	یا قیوم
رحیم	رحیم	رحیم

نقش برائے آسیب

جس گھر میں یہ نقش ہوگا اس گھر میں آسیب کا گزر نہیں ہوگا، بلکہ جس شخص کو آسیب کا خلل ہو اس نقش کو لکھ کر پلائیں اور منہ پر چھینٹے بھی ماریں آسیب کا اثر زائل ہو جائیگا۔ نقش یہ ہے۔

۷۴۱	۳۱۳	۷۰۷	۹۴۰
کشفولہ	بواست	۶۶	۹۲
جلیوش	اورفظوس	یخنسان	۵۸
من قسط	وطلسم	عن مطبوعہ	سکندر

عمل نمبر ۲ = اس عبارت کو لکھ کر بتی بنا کر اور اس کو جلا کر مریض کے نام میں دھواں

دیں،

”فرعون، ہامان، شیطان، لعین العجل العجل العجل“ دھواں دینے کے بعد تین مرتبہ ذیل کا عمل پڑھ کر مریض پر دم کریں انشاءاللہ شفاء ہوگی۔

”بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا رقیب یا معین یا وکیل یا اللّٰہ ابرصًا صبراصًا صاراصًا وحضارًا من کل آفۃٍ حيٍ العرش والارض فاللّٰہ خیر حافظًا وھوا ارحم الراحمین“

آسیب وجادو کا خاص علاج

اس عمل کو مغرب یا عشاء کے بعد گھر کے تمام افراد بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ آخری دونوں سورتین (معوذتین) پڑھ کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی آسیب وجادو حملہ آور نہیں ہوں گے۔

سحر کا علاج

اس نقش کو ۴۱ مرتبہ باوضو لکھیں ان میں سے ایک نقش موم جامہ کر کے مریض کے گلے میں ڈالیں اور باقی ماندہ کو روزانہ نہار منہ تازہ پانی میں دھو کر پلا دیجئے، نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۱۵۶۹	۲۱۵۶۲	۲۱۵۶۷	یاحی
۲۱۵۶۴	۲۱۵۶۶	۲۱۵۶۸	یاقیوم
۲۱۵۶۵	۲۱۵۷۰	۲۱۵۷۰	یارحمن
یاحافظ	یاحفیظ	یاکریم	یارحیم

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرگلہ روڈ نزد جامع مسجد مدنی تحصیل ... شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

دفع سحر

اس آیت کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں اور پانی پر پڑھ کر دم کریں مریض کو پلائیں آیت یہ ہیں "**بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسی ما جئتم بہ السحر ان اللّٰہ سیبطلہ ان اللّٰہ لا یصلح عمل المفسدین وبحق اللّٰہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثت فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ناس ناس، ملک الناس ناس ناس الہ الناس ناس ناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس ناس ناس من الجنۃ والناس ناس ناس**"

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکار روڈ نزد جامع مسجد ابدالمدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

سفلی جادو سحر سے نجات

اگر کسی مرد، عورت، بچے پر کسی نے سفلی جادو سحر کر دیا ہو جس کے سبب وہ دیوانہ بیمار بے روزگار پریشان اور راتوں کو جاگتا ہو اور گھر سے نکل کر بھاگتا ہو یا اپنے کام پر نہ جاتا ہو تو اس کیلئے یہ عمل انتہائی مجرب ہے روزانہ دعا برہیہ ۱۵ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں ساتھ ہی دونوں کانوں میں بھی تین تین مرتبہ دعا برہیہ پڑھیں یہ عمل ۲۱ دن کریں انشاء اللہ شفا کامل ہوگی، پانی کو دن میں ۳ مرتبہ پلائیں۔

سورہ بقرہ سے سفلی جادو کا علاج

سورۃ بقرہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کریں اول وآخر ۵ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں یہ پانی مریض کو پلائیں اور نہانا بھی ضروری ہے یہ عمل ۴۱ دن کرنا ہے۔ مجرب ہے۔

معوذتین سے سفلی جادو کا علاج

سورۃ فاتحہ اور معوذتین کو چینی کی ۲۱ پلیٹوں پر زعفران یا کالی سیاہی سے لکھیں اور ہر روز ایک پلیٹ مریض کو دھو کر پلائیں اور ہر تیسرے دن بعد ایک مرتبہ ضرور نہلائیں انشاءاللہ شفاء کامل ہوگی، مجرب ہے۔

حروف صوامت سے سفلی جادو کا علاج

حروف صوامت کو ۱۱ مرتبہ سفید کاغذ پر نیلی سیاہی سے تحریر کریں اور پانی کی بوتل میں یہ نقش ڈال دیں مریض کو روزانہ پانی استعمال کروائیں انشاءاللہ شفاء کامل ہوگی،

جادو سایہ کا علاج

کورے برتن میں سات گھروں کا پانی اور سات بیری کے پتے لے کر ڈال دیں یہ نقش لکھ کر بھی ساتھ ڈالیں اور مزید پانی ملا کر سات دن تک کسی پاک جگہ پر غسل کریں پانی اور پتے روزانہ تازہ لیں ہونگے، اور اس نقش کو روزانہ پینے کیلئے بھی سات دن تک استعمال کروائیں، نقش یہ ہے۔

جبرائیل ۷۸۶ میکائیل

یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم
یا مطیع	یا مطیع	یا مطیع	یا مطیع
یا رحمن	یا رحمن	یا رحمن	یا رحمن

اسرافیل اللھم اشف من اللہ البلاد عزرائیل

یہ نقش ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ کا کامیاب نقش ہے اور اکثر یہی نقش سے ہی جادو سایہ آسیب اور ہر مرض کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نقش نمبر ۲۔

یا محیط	یا غنی	یا حیی
یا قیوم	یا مالک	یا غفور
مالک	مالک	مالک

رجعت عمل اور سحر و نحوست کا علاج

اگر کسی کا کوئی عمل خراب ہو گیا ہو اور اس کی رجعت و نحوست میں مبتلا ہو یا سحر جادو ٹونہ کی مصیبت میں مبتلا ہو تو تین سو ساٹھ مرتبہ روزانہ بلا ناغہ ۲۱ روز تک ان کلمات کو پڑھیں انشاء اللہ رجعت عمل اور سحر و نحوست دور بلائے ناگہانی و مصیبت دور ہوگی، عزیمت یہ ہے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صم بکم عمی فھم لا یرجعون“

برائے دفع سحر

اگر کوئی شخص سحر جادو میں مبتلا ہو تو اس چہل قاف کو ۲۱ مرتبہ پانی پر دم کریں اور ۲۱ روز مریض کو پلائیں اور تیل سرسوں پر بھی دم کر کے دیوے مالش پورے جسم پر کریں انشاء اللہ شفاء ہوگی، مجرب و آزمودہ ہے (چہل قاف یہ ہے)

”بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحمٰن الرَّحیم۔ قَادِرٌ رَبٌّ قَدَّرَ قَضَآءً قَقَھَقَرٌ اَقُوۡلُ بِقَرۡقَارٍ مَّعَ قَرۡقَشٍ فِیۡ قَیۡقُوۡشٍ بِحَقِّ قَلَانِسٍ قُطُبِ الۡقَمۡقَامِ

الْقَنَاقِنِ۔ قَقَرْ قَرِیْ تَقَبَّلْ بِقَبُوْلِ قُرْبِ قُدْسٍ عَنِ الْقِرَامِ قَیَا قَیُّوْمُ بِقَوْقَمِهَا فِیْ قَیْقَاتٍ بِقَفْقَفَةٍ قَفْقَفَهِ فَقَهِّرْ قِطَامِیْ وَاقْسِمْ قُفْنَهٗ یَاقَوِیُّ۔" ساتھ یہ نقش گلے میں پہنچائیں۔

۷۸۶

ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق
ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق	ق

جادو کا اثر زائل کرنا

پانچ نمازیوں کے وضوء کا پانی ایک بوتل میں جمع کرلیں اس پر دوسو مرتبہ سلام قولا من رب رحیم پڑھ کر دم کریں اور پانچ کھجور لیں اور ان میں سے ہر کھجور پر اکیس مرتبہ یہی آیت پڑھ کر دم کریں مریض کو عصر اور مغرب کے درمیان ایک کھجور کھلائیں، مریض کے گلے میں یہ نقش ڈالیں، انشاء اللہ جادو کا اثر زائل ہو جائیگا، مجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

وفر	طعر	دفر
افر	حجر	هفر
۲۸۲	۲۸۷	۲۸۰

جن بھوت کا اثر زائل کرنا

اس نقش کو باوضو عرق گلاب و زعفران سے ۴۲ بار لکھیں ایک موم جامہ کر کے

کالے کپڑے یا چمڑے میں سلوا کر کالی ڈوری میں باندھ کر گلے میں ڈالیں اور بقیہ نقش کو روزانہ ایک ایک کر کے وضو والے پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں، نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۹۱۶	۱۹۲۹	۱۹۲۶	۱۹۲۳
زکظغ	بکظغ	زاظغ	حکظغ
۱۹۲۱	۱۹۲۴	۱۹۳۱	۱۹۱۸
لظغ	طیظغ	کظغ	ہکظغ

اونٹ کی ہڈی سے جادو ٹونہ، جنات کا علاج

اگر جس کسی گھر میں جنات ہوں اور جادو ٹونہ ہو تو اس گھر کے افراد اونٹ کی ہڈی سے اپنے گھر کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ (عمل یہ ہے)

اونٹ کی ایک عدد ہڈی لیں جو ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک ہو ہڈی اونٹ کے جسم کے کسی حصہ کی بھی ہو، سالم ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اسے صاف کر کے اس کے اوپر سورۃ الکوثر اکتالیس بار اور سورۃ القارعہ اکیس بار پڑھ کر پھونک دیں اب اس ہڈی پر آٹھ جنات کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اب یہ ہڈی جس گھر میں بھی ہوگی انشاء اللہ وہ جنات اور جادو ٹونہ سے گھر محفوظ رہے گا، اگر کسی گھر میں جنات یا جادو ٹونہ ہے تو صرف سات یوم اس ہڈی کو وہاں پر رکھیں، سات یوم میں جنات کا صفایا ہو جاتا ہے، اثرات ختم ہو جاتے ہیں اگر اس عمل کو مزید ۱۴ دن کیا جائے تو دوبارہ کبھی بھی جنات اور جادو ٹونہ اس گھر میں اثر انداز نہیں ہونگے، یہ عمل کم از کم تین بار ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ آج کل کے عامل صرف روزی کے چکر میں غریب عوام کا خون پی رہے ہیں انکو اصول علاج معلوم نہیں ہوتا بلکہ کتابیں اکٹھی کیں جو عمل آسان لگا تجربہ کر لیا اور دوبارہ اس عمل کو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ایسے

عاملین سے بچنا بہت ضروری ہے، (طریقہ چلہ کشی) ۔ سورۃ الکوثر ۲۷۵۴ مرتبہ اول و آخر ۱۱ بار درود ابراہیمی اور سورۃ القارعہ ۳۱۳ مرتبہ اول و آخر درود شریف ۔ یہ عمل عشاء کی نماز میں وتر چھوڑ کر کرنا ہے اور وتر بعد میں پڑھنے ہونگے، اگر کوئی وقت کی قلت کے باعث چلہ نہیں کر سکتے تو ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ کا رکنیت فارم پر کر کے خصوصی اجازت طلب کر سکتے ہیں، خصوصی اجازت کیلئے ہدیہ عمل ادا کرنا ضروری ہوتا ہے ۔

حروف مقطعات سے کالے جادو کا توڑ

اگر کسی شخص پر کالے جادو کا اثر ہو گیا ہو تو وہ حروف مقطعات سے اپنا علاج کرے حروف مقطعات ایک سو اکتالیس مرتبہ لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈالیں ساتھ ہمراہ ۷ عدد چھوٹی الائچی بھی ڈال دیں اب اس پانی کو تھوڑا تھوڑا سحر زدہ کو پلائیں، اور بقیہ پانی سے سحر زدہ کو غسل کروائیں، دوران غسل لوبان کی دھونی اس کے چاروں طرف سلگائیں بعد ازاں سات مرتبہ آیۃ الکرسی اور سات مرتبہ چہار قل پڑھ کر مریض پر دم کریں، مریض کو شام کو لوبان کی دھونی دیں اور اس کے کمرے میں صبح و شام اور رات کو دو دو اگر بتی جلائیں، چھ عدد روزانہ جلائیں مریض کے گلے میں ذیل کا نقش زعفران و گلاب سے باوضو حالت میں سفید کاغذ پر لکھ کر خوشبو لگا کر ڈال دیں پانی پلانے اور نہلانے کا عمل ۲۳ دن تک جاری رکھیں حروف مقطعات روزانہ ۱۴۱ مرتبہ لکھنے ہونگے، اور اس طرح لوبان اور اگر بتی کا کام بھی اتنے ہی روز چلے گا انشاء اللہ تعالیٰ مریض اس عمل سے کالی ماتا کے ساتھ کالے عمل کے تمام اثرات زائل ہو جائیں گے، اور سحر زدہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جائیگا، اس کا کیا ہوا جادو ٹونہ اس کی طرف واپس لوٹ جائیگا اور کرنے و کروانے والے کو ہمیشہ نقصان پہنچے گا، حروف مقطعات یہ ہیں

الم ۔ المر ۔ المص ۔ الر ۔ حم ۔ حمعسق

کھیعص۔ طہ۔ طس۔ طسم۔ ق۔ ص۔ ن۔ یٰسین

حروف مقطعات کا نقش یہ ہے

الم	المر	المص	الر	حم
حمعسق	کھیعص	طہ	طس	طسم
ق	ص	ن	یٰسین	نام مریض مع والدہ

معوذتین سے کالے جادو کا علاج

اگر کسی پر کالا جادو ہو گیا ہو اور علاج کرنے باوجود بھی آرام نہ ہو اور اب آخری امید بھی نہیں نظر نہ آتی ہو تو ایسے مایوس مریضوں کیلئے یہ علاج تریاق ہے انشاء اللہ ضرور صحت مند ہو جائے گا۔ عمل یہ ہے۔ اول و آخر درود پاک ۱۱ مرتبہ

”اللھم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم

الف الف مرة الف الف زرة سید القاھرین علی اعداء رب العالمین“

اسم الٰہی ۱۱۰۰ مرتبہ ”یا جبار، یا قہار“ سورۃ فلق بہ طریقہ ذیل ۱۰۰۰ مرتبہ

”قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کل الخبائث ابلیس شر کل ذریات ابلیس ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثت فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد“

سورۃ الناس بہ طریقہ ذیل ۱۰۰۰ مرتبہ

”قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس ،کل خناس ابلیس و ھاروت و ماروت و دیویان

ودیوتان و فرعون و هامان وشداد و نمرود ناریه من شر الواسواس الخناس کل ذرةٍ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس"

قارئین کرام لفظ ناس کو تین مرتبہ پڑھنا ہوگا پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر ۳۳۰ مرتبہ اول و آخر ۱۱ بار درود ابراہیمی بھی پڑھیں۔

سورۃ الکوثر بہ طریق ذیل

"انا اعطینک الکوثر، فصل لربک وانحر انا شانئک هوالابتر، ابتر ابتر، کل خناس الابتر کل سحرٍ کالی ماتا ابتر ابتر ابتر"

طریقہ استعمال: درود پاک، اسم الٰہی، فلق، ناس اور کوثر کو پڑھ کر تیل سرسوں اور آب زم زم پر دم کریں تیل کو دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یعنی پورے جسم پر مالش کریں بعد دوسرے دن غسل لوبان کی دھونی دیں، اور پانی کو دن میں ۵ مرتبہ مریض کو پلائیں اور روزانہ آدھا کلو گوشت صدقہ دیں یہ عمل ۴۱ دن کرنا ہوگا اور صدقہ بھی ۴۱ دن ادا کرنا ہوگ، ۳۹ دن درود پاک اسم الٰہی، فلق، ناس اور سورۃ الکوثر کو سفید کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈالیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفاء کامل ہوگی۔

سورۃ بقرہ سے کالے جادو کا علاج

سورۃ بقرہ سے کالے جادو کا علاج ایک نہایت ہی مجرب عمل ہے اکثر بڑے عاملین سورۃ البقرہ سے ہی سفلی، کالی ماتا کے جادو کا علاج کرتے ہیں اور خاص شاگردوں کو بھی سورۃ بقرہ سے ہی اپنی نگرانی میں پہلی مرتبہ علاج کرواتے ہیں تاکہ شاگرد رشید کامیابی

کی منزل حاصل کر سکے، (سورۃ بقرہ سے علاج)

"اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم" ۱۰۰ا مرتبہ

"بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم" ۷۸۶ مرتبہ

"الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبدوایاک نستعین اھدنا الصراط المستقیم صراط الذی انعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولاالضالین" ۲۱ مرتبہ

"الم ذلک الکتاب لا ریب فیه ھدی للمتقین الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وممارزقناھم ینفقون والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالاخرۃ ھم یوقنون اولیک علی ھدی من ربھم و اولیک ھم المفلحون اللّٰہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تاخذہ سنته ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذالذی یشفع عندہ الا باذنه یعلم ما بین ایدیھم وما خلفھم ولا یحیطون بشی ءٍ من علمه الا بما شاء وسیع کرسیه السماوات والارض ولا یوودہ حفظھما وھو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغنی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لھا واللّٰہ سمیع علیم اللّٰہ ولی الذین امنوایخرجھم من الظلمات الی النور والذین کفرو اولیاء وھم الطاغوت یخرجوتھم من النور الی الظلمات اولیک اصحاب النارھم فیھا خالدون امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمومنون کل امن باللہ و ملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله،و قالو سمعنا

واطعنا غفرانک ابن والیک المصیر، لا یکلف اللّٰہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تواخذ نا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین واتبعوا ما تتلوالشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن اللّٰہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخرة من خلاق وبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون"

اس عمل میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۵۸ ، ۲۵۵ اور ۲۸۶ ۔ ۲۸۵ ، ۱۰۲ ڈالی گئیں ہیں، اس عمل کو اول وآخر ۱۱ بار درود شریف ابراہیمی پڑھ کر مریض پر دم کریں اور پانی پر بھی دم کرنا ہے، مریض یہ پانی ۲۱ دن استعمال کرے، اور ساتھ ہی روغن زیتون پر بھی دم کیا جائے روغن زیتون کو کھانے میں اور جسم پر ملنے کیلئے استعمال کیا جائے۔

شفائے مرض

جادو ٹونہ آسیب زدہ کے علاج کرنے کے بعد یہ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو عامل یہ عمل نہیں کرتے بعد میں خود بھی پریشان رہتے ہیں اس عمل کرنے سے رجعت نہیں ہوتی مریض بھی تندرست ہوجاتا ہے اور عامل بھی محفوظ رہتا ہے، لہٰذا اس عمل تریاق طور استعمال کرنا بہت ضروری ہے، عمل یہ ہے۔

"**بسم اللّٰہ الذی لا یضر مع اسمه شیءٍ**" اس آیت کو ۲۵ مرتبہ تلاوت

کریں، "**وننزل من القرآن ما هوا شفاء ورحمة للمومنين**" اور کہے یا شافی یا غنی یا شافی اشف فلاں بن فلاں جمیع الاسقام والالام، اور اس آیت کو ۷۰ مرتبہ تلاوت ضرور کریں، اول و آخر درود ابراہیمی ۱۱ بار انشاء شفاء کامل ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس نقش کو مریض کے گلے میں ڈالیں۔ نقش یہ ہے۔

د	ط	ب
ج	ھ	ز
ح	الف	و

نقش کی الٹی طرف یہ لکھیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انت	بسم اللہ بابنا	مبارک حیطاننا	ف
شافی	یٰسین	سقفنا	مهمات
انت	کھیعص	کف یدنا	الا
کافی	حم عسق	حمایتنا	صور

اور نقش نمبر ۲ کو لکھ کر درخت پر لٹکائیں۔ نقش یہ ہے

۷۸۶

ھ	۴۶	۱۵
۲۵	یااللہ	ام
۳۶	ک	ی

یہاں مریض کا نام مع والدہ اور ساتھ علاج کرنے والے عامل کا نام لکھیں تا کہ عامل محفوظ رہے اور مریض پر دوبارہ کوئی وار نہ کر سکے۔

قارئین۔ آپ کو جو بھی عمل اچھا لگے تو عمل کرنے سے پہلے کسی عامل سے ضرور اجازت لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔

باب چہارم

”علاج اطفال“ مجربات میں سے ہیں

برسان جن بچوں کو سوکھے کا مرض ہو جاتا ہے وہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد مر جاتے ہیں ان کیلئے اس طلسم کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال لیں۔ طلسم یہ ہے

بجق یااللہ اعلیٰ العظیم کالو الا سیالو لا کلب وما سوما

۱ ۱۱ ۱۱ ۵ھ ۵۷ [illegible] ۱۲۷ [illegible] ۵ے ۳۵

سورۃ الطارق کا نقش لکھ کر گلے میں ڈالیں ہر قسم کے آسیب اور مسان کیلئے مجرب ہے، لوبان کی دھونی تین دن لگاتار دیتا رہے۔ نقش یہ ہے

۷۸۶

۴۴۳۳	۴۴۴۷	۴۴۴۴	۴۴۴۱
۴۴۴۵	۴۴۴۰	۴۴۳۴	۴۴۴۶
۴۴۳۹	۴۴۴۲	۴۴۴۹	۴۴۳۵
۴۴۴۸	۴۴۳۶	۴۴۳۸	۴۴۴۳

اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں اور ایک نقش لکھ کر ۲۱ دن تک پلائیں انشاء اللہ مسان کا مرض ختم ہو جائے گا، نقش یہ ہے۔

ای۳۹	د۳۹۵	ط۳۹۵
و۳۹۵	ح۳۹۵	ی۳۹
ز۳۹۵	بی۳۹	ھ۳۹۵

جو بچہ ضد کرتا ہو

یہ نقش لکھ کر بچے کی چارپائی کے نیچے دفن کر دیں بچہ ضد نہ کرے گا،



جس بچے کو دورے پڑنے سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے ہوں

اگر کسی بچے کو دورے پڑنے سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہوں تو بروز بدھ اس نقش کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں انشاء اللہ بچے کو شفاء ملے گی، نقش یہ ہے

۷۸۶

و۰۳غ	ی غ	د۰۲غ	ک۱۰
۱۰۲۲	ب۱۰۳	۴ل۱۰	۲ی غ
۶ک۱۰	ک۱۰	۱۰۱۴	م۱۰

۱۶غ	ح ل ۱۰	ح ل غ	ح ی غ

برائے دفع ام صبیان

۴ عدد نئی سکوری پر اس نقش کو لکھ کر اپلوں سے چاروں طرف پر کر کے آگ جلائے جب خوب سرخ ہو جائے تو چاروں سکوریوں کو بچے کے پلنگ کے پایوں کے نیچے رکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاء ملے گی، نقش اوپر والا ہی کام میں لائیں۔

دق الاطفال یعنی بچے کا سوکڑا پن

اس نقش کو بچے کو ہفتہ کے روز بادبخان یعنی بیگن جو نیلے رنگ کا ہوتا ہے ترکاری کے کام میں آتا ہے لے کر اس پر یہ نقش بروز اتوار پہلی ساعت میں لکھے انشاء اللہ بچے کا سوکڑا پن ختم ہو جائے گا، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ	الرحمن	الرحیم
وی	دلا	ط
و	ھ	لا
ای	ق	مس

بچہ دودھ پینے لگے

اگر بچہ دودھ نہ پیتا ہو تو یہ نقش شیر مادر یا آب سے دھو کر پلائے انشاء اللہ العزیز بچہ دودھ پینے لگے گا، نوٹ : ق، و، م ان حروف کے دھانے کھلے رہیں۔ نقش یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یاقیوم	یاقیوم	یاقیوم
یاقیوم	یاقیوم	یاقیوم
یاقیوم	یاقیوم	یاقیوم

الحمد للہ رب العالمین

جو بچہ روتا ہو

جو بچہ ہر وقت روتا ہو تو اس کے دائیں کان میں فجر کی اذان پانچ مرتبہ اور بائیں کان میں تکبیر تین مرتبہ کہے، تو بچہ رونا بند کر دے گا، اذان ایک ایک بار بھی کافی ہے، (بوقت بعد نماز فجر + بوقت بعد نماز مغرب)۔

جن بچوں کو دمہ کا مرض ہو

اکثر بچوں کو دمہ کا مرض ہو جاتا ہے اس آیت مبارکہ کو تین مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کریں اور پانی کی بوتل پر بھی اس طرح سات دم سات ہفتہ مکمل کریں انشاء اللہ دمہ بالکل ختم ہو جائیگا، مجرب ہے، آیت یہ ہے

”وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ اَنَّکَ یَضِیۡقُ صَدۡرُکَ بِمَا یَقُوۡلُوۡنَ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ وَکُنۡ مِّنَ السَّاجِدِیۡنَ وَاعۡبُدۡ رَبَّکَ حَتّٰی یَاۡتِیَکَ الۡیَقِیۡنُ“

جس بچے کے دل میں سوراخ ہو

اکثر بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے اور والدین علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں ایسے مایوس والدین کیلئے یہ ایک تحفہ ہے انشاء اللہ ضرور آرام ملے گا اس آیت مبارکہ

کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ تین بار پڑھ کر دل کی جگہ دم کریں اور ساتھ پانی یا دودھ پر بھی دم کریں اس طرح سات ہفتہ لگا تار دم کرتے رہیں صبح و شام اگر دل کے وال بند ہیں تو وہ بھی کھل جائیں گے۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

"قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ۔"

بچہ کے سوکڑا پن کیلئے

جب بچہ سوکڑا پن کا شکار ہو تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے نقش یہ ہے۔

ب	ز	الف
و	ج	ھ
د	ح	ط

برائے مسان و آسیب

اس نقش کو لکھ کر آٹے کے پانی میں حل کر توے پر دھونی دیں اور بچے کو یہ دھونی دن میں دو مرتبہ دینی ہے نقش یہ ہے۔



برائے نظر بد

اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جاتی ہے اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے ایسے بچوں کیلئے یہ نقش اکسیر کی مانند ہے، اس نقش کو زعفران کے ساتھ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں۔

۴۹۰	یاممیت	۹۰ت
یاممیت	ص ت	یاممیت

برائے بدنظر

اگر کسی بچے کو بدنظر لگ گئی ہو تو یہ نقش لکھ کر گلے میں ڈالیں انشاءاللہ دوبارہ بد نظر نہیں لگے گی، نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ن ۲۳	ون ۲۳	دن ش ۲
رحن ش ۲	ج ن ۲۳	طم ش ۲
و۵ ش ۲	ال ۲۳	۲۳۵۷

باب پنجم

”مردوں کے علاج“

طلسم مرد بستہ کی بندش دور کرنا

اگر کسی مرد کو دشمن نے باندھ دیا ہو تو یہ طلسم سیاہ مرغی کے انڈے پر طلوع آفتاب کے وقت بروز جمعہ لکھ کر آگ کے پاس دفن کرے اور دوسرا طلسم لکھ کر ۲۱ دن ہمرہ دودھ پیئے انشاءاللہ بندش ختم ہو جائیگی، طلسم یہ ہے

ھو	کسا	کا	عرلی	لاہ	سلم	۵۴

طلسم کشادگی مرد کیلئے

اگر مرد کی شہوت باندھ دی گئی ہو اور وہ اپنی بیوی پر قادر نہ ہوتا یا اولاد باندھ دی

گئی ہو تو سیاہ مرغی کا انڈہ ابال کر اس کا چھلکا اتار دیں پھر زعفران و عرق گلاب سے ابلے ہوئے انڈے پر یہ آیت مبارکہ لکھے اور بستہ مرد کو کھلائیں یہ عمل ۲۱ دن کرنا ہے ہر روز صبح و شام بلاناغہ استعمال کریں انشاء اللہ بندش دفع ہو جائے گی، طلسم یہ ہے



بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوان قرانا سیرت بہ الجبار اوقطعت بہ الارض اوکلم بہ الموتی بل اللہ الامر جمعیا

نامردگی کیلئے

اگر کسی نے کسی شخص کو عمل کروا کے نامرد کر دیا ہو تو ایسے نامرد حضرات کیلئے یہ مجرب و مؤثر ہے۔ اگر وہ ہر روز تین مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاء اللہ تمام مردانہ نقائص رفع ہو جائیں گے۔

طلسم باندھے ہوئے مرد کیلئے

اس طلسم کو مرغی کے انڈے پر لکھ کر آگ میں دفن کریں بندش ختم ہو جائیگی،



انزال جلد نہ ہو

اس نقش کو گرہن کے وقت ناف بھر پانی میں کھڑے ہو کر یا شرف مریخ میں یہ نقش لکھ کر کمر سے باندھ دیں جب تک نقش نہیں کھولیں گے انزال نہ ہوگا، نقش یہ ہے۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
نزد جامع مسجد محمدی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

ب	۴	ج	ب	ھ
ط	۵	و	بـ	و
ص	ح	۵	ن	م
۵	ط	ب	ج	۴

برائے امساک

اس نقش کو لکھ کر کمر سے باندھ لیں بہت امساک ہوگا، مجرب المجرب ہے،

۱۸۰	۱۹۴	۱۹۰	۸۷ع
[illegible]	۳۸۶	۱۸۱	۱۹۳
۱۸۵	۸۸۰	۹۶ع	۱۸۳
۹۵	۸۳ع	۱۸۴	۱۸۹

درد جسم کا فوری علاج

اگر مرد حضرات کام کی وجہ سے بہت تھک جاتے ہیں اور تھکاوٹ کی وجہ سے کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کرتا تو اس منتر کو ۷ مرتبہ پڑھ کر دم کریں، منتر یہ ہے۔

"باباجی کی گھوڑی وھی اندھیری رات
فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے یھی لگی میری آس"

یا پھر یہ سات مرتبہ پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کریں دم کرتے وقت سانس بند کر کے پڑھنا ہے۔ قرآنی لفظ یہ ہیں **"لیعذبھم"**

نقش رفتار (مشقت والے کام آسان ہوں (مجرب)

پیدل چلنے والے لوگوں کیلئے تحفہ۔ اس نقش کو لکھ کر کمر سے باندھ لیں انشاء اللہ

کتنی ہی محنت کرے یا چلے بالکل بھی نہ تھکے گا، نقش یہ ہے۔

قادر	قائم	قوی	مقتدر
قوی	مقتدر	قادر	قائم
مقتدر	قوی	قائم	قادر
قائم	قادر	مقتدر	قوی

برائے احتلام

احتلام کو روکنے کا بہترین عمل رات کو سوتے وقت اپنے سینے پر دائیں ہاتھ سے شہادت کی انگلی سے تین مرتبہ یہ نام مبارک لکھے۔ نام مبارک یہ ہے۔

”عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ“

احتلام

اکثر مردوں کو احتلام کا مرض کثرت سے ہوتا ہے اور بہت شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے ایسے حضرات کو چاہیے کہ یہ نقش لکھ کر گلے میں ڈالے انشاء اللہ احتلام کے مرض سے محفوظ رہے گا، نقش یہ ہے۔

بحق ابا بکر صدیق	بحق عمر فاروق
بگریزد شیطان لعین	از ہیبت عثمان نیاید پیش من بنا بہت سے علی شیر خدا

دفع احتلام

یہ نقش لکھ کر موم جامہ کر کے مریض کے گلے میں ڈال دیں انشاء اللہ احتلام نہ ہوگا، نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۵ ر	ح۲۲	ھک۲	ب ک ر
و۲۲	۲۲۱	وی۲	۷ ک ۲
۲۲۰	۲۲۳	ل ۲	زی ر
طک ر	۱۸ ر	۱۹ ر	د ۲ ر

یا قدوس یا قدوس یا قدوس

شہوت بستہ کھولنے کیلئے

سورۃ واقعہ کسی سفید کاغذ پر تحریر کریں پانی میں کھول کر پلائیں روزانہ نہار منہ ۲۱ دن یہ عمل کریں،

طلسم شہوت کشادہ

یہ طلسم مرد کے زانوں پر لکھیں شہوت کشادہ ہو جائے گی، طلسم یہ ہے



۲	۹	۴
۷	۵	۳
۶	۱	۸

قوت مردی

قوت مردی جسکی بستہ ہو تو اس مریض کی ناف کے نیچے یہ نقش تحریر کریں یا نقش بنا کر باندھیں قوت مردی کھل جائے گی، نقش یہ ہے۔

ان ال ذ ی ن ام ن وا رس ول

ق ب ل ھم

٢	٩	۴
٧	٥	٣
٦	١	٨

ک ب ت وا

ہ ل ہ ہ ی ء م ی ے خ ر ل ہ ر

بستہ مرد کھل جائے

یہ عمل مرد، عورت دونوں کیلئے مفید ہے ہد ہد کا دل خشک کر کے سورۃ ابراہیم اول وآخر درود شریف ٣ بار پڑھ کر دم کر کے سفید قند کے ساتھ کھائیں تو بستہ شہوت کھل جائیگی۔

درد ناف مجرب

یہ نقش مرد و عورت یعنی دونوں کیلئے مفید ہے یہ حلقہ حرف ح کو ناف کے اوپر تحریر کریں پھر حلقہ ح میں نقش تحریر کریں انشاء اللہ فوراً درد ختم اور ناف اپنی جگہ پر واپس آجائیگی


بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
یابدوح طلمنہ جھنہ یابدوح
طلمنہ جھنہ یابدوح طلمنہ
جھنہ

درد ناف یا پیٹ

اس نقش کو درد والی جگہ پر لکھیں اور دوسرا لکھ کر پلائیں درد فوراً ختم ہوجائیگا،

الف س ٦		الف ۴۹
٦	٧	٦
۹۹۱لا	ح اھے	ط

نوٹ : دعا بر ہیہ کو ہر نقش یا طلسم پر پڑھ کر دم کریں ایسا نہ کرنے پر نقش یا طلسم کام نہیں کریگا۔

باب ششم

"عورتوں کے علاج"

حیض بند کرنے کیلئے طلسم

اگر کسی عورت کو حیض کی زیادتی ہو تو اس طلسم کو لکھ کر کمر پر باندھے، طلسم یہ ہے

۹۹۹۱ ح ح ح ۱۱ اح ۲۲ ر سم

درازی حیض مجرب المجرب

موجودہ دور میں خوراک میں نقص کے باعث اکثر بالغ لڑکیوں اور خواتین کو اپنے مخصوص ایام کے خراب ہونے کی شکایت ہے اس کیلئے یہ نقش بہت مجرب المجرب ہے اور کئی بار کا آزمودہ ہے منگل کے دن طلوع آفتاب کے فوراً بعد سرخ کاغذ پر سرخ سیاہی سے لکھے اور جس عورت کے ایام بند ہوں یا خراب اس کو دیں کہ وہ اپنی بائیں ران پر سرخ کپڑے میں سی کر باندھ لیں انشاء اللہ بہت بہتری ہوگی، نقش یہ ہے

٦۸٧

ح۸	۱۱	و٦
ج۳	۵ہ	ز٧

نقش کی دوسری طرف

حصحا حح دو۳د ھےلا

د۴	ط۹	ب۲

خرابی حیض کیلئے دوسرا نقش

اس نقش کو ہفتہ کے دن ۱۲ بجے سرخ سیاہی سے سرخ کاغذ پر لکھیں اور عورت اپنی بائیں ران پر سرخ کپڑے یا چمڑے میں سی کر باندھ لے انشاء اللہ شفا ہوگی۔ نقش یہ ہے

۸	۱	۶
۳	۵	۷
[illegible]	۹	۲

مرگی کو ہٹانے کا نقش طلسم

مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے اس نقش کو سفید مرغ کے خون سے پیپل کے پتے پر لکھیں بعد ازاں مریض کے سر پر باندھ دیں انشاء اللہ بہت جلد آرام آجائیگا، اور کوئی تکلیف بھی نہ ہوگی، نقش یہ ہے

اس طلسم کو لکھ کر کالا دھاگہ اور نیلے کپڑے میں لپیٹ کر روزانہ صبح و شام دھونی دیں انشاء اللہ شفاء ہوگی۔



مرض ہسٹریا کیلئے

یہ مرض بھی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اکثر والدین غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں

کی شادی نہیں کر پاتے شادی نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں مختلف امراض کا شکار ہو جاتی ہیں اور والدین سمجھتے ہیں کہ میری اولاد اللہ لوگ بن گئی ہے، محترم قارئین ایسا نہیں ہوتا بلکہ فوراً ایسی عورت کی شادی کر دینی چاہیے، تو بہت بہتر اگر مناسب رشتہ ابھی نہ مل رہا ہو تو اس نقش کو لکھ کر مریضہ کی ناف پہ باندھیں انشاء اللہ شفاء کامل ملے گی، دوبارہ یہ مرض نہیں ہوتا اس نقش کو کئی بار آزمایا گیا ہے۔ نقش ہسٹریا یہ ہے۔

لاالاب ح ہ ہ ل ددداا	۱۰۰	۸
الرع ابن لااحدع	لابتہ ۵۵	ویاوقا
ماھج ویزنی ل	اا الالا ا	لا

بانجھ پن کا علاج

اگر کوئی عورت بانجھ ہو تو اس نقش کو لکھ کر سرخ رنگ کے کپڑے میں پیک کر کے اپنے گلے میں غسل فارغ ہونے کے بعد ڈال لے تو انشاء اللہ ۳ ماہ کے اندر حمل ہو جائے گا، نقش یہ ہے۔



بالف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

بانجھ پن کیلئے

سورۃ بقرہ تین مرتبہ پڑھ کر پانی کی بوتل میں دم کرے اس پانی کو غسل کے بعد ۲۱ دن استعمال کریں اس طرح یہ عمل ۳ ماہ کرنا ہوگا،

دافع بانجھ پن

اس نقش کو ۳۰ عدد سفید کاغذ پر زعفران گلاب عرق سے تحریر کریں ایک نقش روزانہ پانی میں گھول کر عورت پی لیا کرے، انشاء اللہ حمل قرار پائے گا، نقش یہ ہے۔

یاخالق	یاخالق	یاخالق
یاخالق	یاخالق	یاخالق
یاخالق	یاخالق	یاخالق

بانجھ پن کیلئے

اکثر عورتوں کو بانجھ پن جادو کی وجہ سے ہو جاتا ہے اس نقش کو لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دیں اور دوسرا نقش لکھ کر گلے میں باندھ دیں انشاء اللہ فوراً نجات ملے گی، نقش یہ ہے

علطالااھا	۹۳ ۲۸ سہا کی ع ۳
۱۹الاع۶۲۹	۵۱۵ علحح ۶۹



بانجھ پن کیلئے طلسم

اگر عورت بانجھ ہووے تو یہ نقش طلسم لکھ کر سات روز تک پلاوے انشاء اللہ تعالیٰ حمل ٹھہر جائے جائے۔ طلسم نقش یہ ہے۔

ھو ھو ھو ھو ھو ھو ھو ھو ھو ھو

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

حی حی حی حی حی حی حی حی حی

قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم

حمل قرار پائے

اگر کسی عورت کے حمل قرار نہ پاتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر کمر کے ساتھ باندھے حمل قرار پا جائے گا، انشاء اللہ۔ نقش یہ ہے۔

یا حفیظ یا کریم یا حافظ	وام ھ م م ا ا	ھے ھے ھے	داد	ع ع ع	ططط
یا رحیم یا حی یا قیوم	ماخہ خوار	[illegible]	لولولو	ھے ھے ھے	یا اللہ یا اللہ یا اللہ

اسقاط حمل (مجرب)

اگر کسی وجہ سے سحر جادو کا اثر ہو تو حمل اسقاط ہو جاتا ہے لہٰذا اس طلسم کو لکھ دیں تا کہ مریضہ اس طلسم کو عرق گلاب میں پیئے اور دوسرا طلسم گلے میں ڈالے، انشاء اللہ شفاء ملے گی اس طلسم کو لکھنے والا اسم یا حی یا قیوم کا عامل ہو۔ طلسم یہ ہے۔

الر کھیعص طہ حم ق ن ★ ا ا ا م # ا ا ا ھے ق

اھیًا اشرًا اھیًا ۔ اھیًا اشرًا اھیًا

اھیًا اشرًا اھیًا ادوانی احباطتٍ آل شدای

طلسم کے پیچھے یہ لکھیں

یاحی یاحی یاحی

یاقیوم یاقیوم یاقیوم

حمل کے دوران خون کا جاری ہونا

اگر کسی وجہ سے حمل کے دوران عورت کا خون جاری ہو جائے تو دو طلسم سفید کاغذ پر لکھے زعفران عرق گلاب سے ایک طلسم مریضہ کو پلائیں دوسرا طلسم مریضہ کے گلے میں ڈالیں، انشاء اللہ شفاء ہوگی۔ طلسم یہ ہے۔ مجرب المجرب ہے۔

ی۱۱۱ ی۱۱۱ ی۱۱۱ ی۱۱۱ ی۱۱۱
ی۱۱۱ ی۱۱۱ ی۱۱۱ ی۱۱۱ ی۱۱۱
ام ۱۱۹ ام ۱۱۹
لــــــــــــــــــــــــــــــــــہ
۱۹۲۱۱
صــــــــــــــــــــــــــــــــــم

اللھم بحق ہذا الاسماء العظام الاما قطعت الدم من فرج فلاں بنت فلاں س ھی ھیا شراھیا شراھیا ادونسای اصبا لؤت آل شدای ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

اسقاط حمل

اس نقش کو لکھ کر عورت اپنی کمر باندھے انشاء اللہ شفا ہوگی۔ نقش یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ال	ق	ا	د	ر
د	ر	ال	ق	ا
ق	ا	د	ر	ال
ر	ال	ق	ا	د
ا	د	ر	ال	ق

حمل قرار پائے

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

جب عورت ایام حیض سے فارغ ہو کر غسل کرے تو اس وقت یہ عمل شروع کیا جائے عبارت (۱۱ عدد) کاغذ سفید ٹکڑوں پر زعفران و گلاب سے تحریر کی جائے، گیارہ رات تک روزانہ ہمبستری سے قبل ایک نقش دودھ میں گھول کر عورت پی لیا کرے، انشاء اللہ حمل قرار پائے گا، مجرب المجرب ہے، نقش کی عبارت یہ ہے۔

بسم اللہ	الرحمن الرحیم	اللھم انی	اعوذ بک انک انت
الذی لا الہ	الا انت	الاحد الصمد	الذی لم یلد
ولم یولد	ولم	یکن لہ کفو	احد الہی بحرمت
محمد	و علی	الحسن و	الحسین

حمل قرار پائے

اس نقش کو لکھ کر عورت ہمبستری سے قبل ناف کے نیچے باندھا جائے، حمل قرار پائے۔

مضور	مضور	مضور	مضور
مضور	مضور	مضور	مضور
یا حی	یا قیوم	یا حی	یا قیوم
مضور	حی	قیوم	مضور

برائے حمل

اس مربع نقش کو لکھ کر عورت کے گلے میں لٹکایا جائے اور مثلث نقش سات عدد تحریر کر کے ایک نقش روزانہ عورت کو پلایا جائے انشاء اللہ اس نقش کی برکت سے سات یوم میں حمل قرار پائے گا، نقش مربع یہ ہے۔ ۷۸۶

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
0322-6865052
Ph: 0307-5908474

و۷	۹۰	ف۷	ج۸
ح۸	بف	۷۷	طف
۸۱	۸۵	۹۲	۷۸
الف۱۱	ط۷	ف	و۸

نقش مثلث یہ ہے

۷۸۶

۵ی۱	۱۰۸	۳ی۱
۱۱۰	۱۲ق	د۱۱
۱۱	۶ی۱	۹ق

برائے حمل (مجرب)

اس نقش کو تحریر کر کے عورت کے گلے میں ڈال دیں۔ سات عدد سیب پر لکھ کر دیں اور روزانہ ایک سیب نہار منہ عورت کو کھلائیں۔ نقش یہ ہے۔

یامضور	یاخالق	یامضور	یاخالق
یامضور	یاخالق	یامضور	یاخالق
یامضور	یاخالق	یامضور	یاخالق

برائے اٹھرا (مجرب)

اگر کسی عورت کو اٹھرا کی تکلیف ہو، یعنی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، تو یہ نقش مکرم زعفران کی روشنائی سے تحریر کر کے عورت کو دیں تا کہ وہ اسے گلے میں پہن لے دوسرا نقش لکھ کر چاند کی یکم یا پانچ تاریخ تک کھائے انشاءاللہ تعالیٰ فرزند پیدا ہوگا اور جمیع آفات سے محفوظ رہے گا، یہ عمل نو ماہ کرنا ہوگا، نقش یہ ہے۔

۷۸۶

حی	قیوم	حی
قیوم	حی	قیوم
حی	قیوم	حی

علاج اٹھرا (مجرب)

اگر اٹھرا کی وجہ سے اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو یہ نقش لکھ کر چباۓ ۹ ماہ تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولاد نرینہ پیدا ہوگی، نقش یہ ہے۔

اللہ	محمد	حسن	حسین
حسن	حسن	محمد	حسین
محمد	اللہ	محمد	حسن
اللہ	حسین	اللہ	محمد

برائے اٹھرا (مجرب)

اس نقش کو تحریر کر کے حاملہ عورت کو چاند کی یکم تا ۹ تاریخ تک پلائیں اس طرح یہ عمل ۹ ماہ تک کیا جائے تو انشاء اللہ شفاء ہوگی، اولاد زندگی والی پیدا ہوگی۔ نقش یہ ہے

اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ

اٹھرا کیلئے

اس نقش کو تحریر کریں سفید کاغذ پر حاملہ عورت کو ہمراہ دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں انشاء اللہ اٹھرا پھر نہ ہوگا، ۹ ماہ تک علاج کریں، نقش یہ ہے۔

یااللہ	یامحمد	یاغفور
یااللہ	یامحمد	یاغفور
یااللہ	یامحمد	یاغفور

اٹھرا کیلئے (مجرب)

اس نقش کو زعفران سے تحریر کریں، بھوج پتر اور اٹھرا والی عورت کے گلے میں پہنا دیں انشاء اللہ فرزند پیدا ہوگا، اور جمیع آفات سے محفوظ رہے گا، نقش یہ ہے۔

۸۵۱۱	۸۵۲۵	۸۵۲۱	۵۸۱۸
۸۵۲۲	۸۵۱۷	۸۵۱۲	۸۵۲۲
۸۵۱۶	۸۵۱۹	۸۵۲۷	۸۵۱۳
وک ۸۵	دی ث ۸	ہی ۸۵	ہدش ۸

ولادت میں آسانی کیلئے (مجرب)

پیدائش کے وقت اگر تکلیف زیادہ ہو اور ولادت میں تاخیر ہو رہی ہو تو یہ دو عدد نقش عرق گلاب و زعفران سے لکھیں ایک نقش زچہ کی کمر سے باندھ دیں دوسرا پانی میں گھول کر پلا دیں ولادت کے فوراً بعد کمر والا نقش کھول دیں، نقش یہ ہے۔

ف ب	ت ا	اس	ح ط
ح ط	اس	ت ا	ف ب

ت ا	ف ب	ح ط	اس
اس	ح ط	ف ب	ت ا

آپریشن سے بچاؤ کیلئے

وقت ولادت قبلہ رخ ہو کر زعفران اور عرق گلاب سے تحریر کریں اور عورت کو سیدھے ہاتھ پر باندھ دیں انشاء اللہ جلد اولاد ہوگی، ولادت کے فوراً بعد نقش کھول دیں، نقش یہ ہے

لوع لو	لوع لو	لوع لو	لوع لو
لوع لو	لوع لو	لوع لو	لوع لو
لوع لو	لوع لو	لوع لو	لوع لو
لوع لو	لوع لو	لوح لو	لوع لو

آسانی ولادت

اس نقش کو تحریر کر کے عورت کی دائیں ران پر باندھیں انشاء اللہ جلد ولادت ہوگی، ولادت کے فوراً بعد نقش کھول دیں، نقش یہ ہے۔

لؤلو	لؤلو
لؤلو	لؤلو
لؤلو	لؤلو

برائے ولادت آسانی

اس آیت مبارکہ کو گڑ پر تین مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کھلا دیں، جلد ولادت ہوگی

”اذا السماء انشقت وذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت

مافیھا وتخلت واذنت لربھا وحقت۔"

آسانی ولادت

اس عمل کو گڑ پر تین مرتبہ دم کریں اور زچہ کو کھلا دیں انشاء اللہ آسانی ہوگی ان لفظوں کو جلدی جلدی پڑھنا ہوگا۔ لفظ یہ ہیں

ایک ۔ دو ۔ تین

ولادت میں آسانی

اگر کسی عورت کو درد کی شدید تکلیف ہو تو اور خلاصی نہ ہو رہی ہو تو یہ نقش تحریر کرکے پیدائش والی عورت اپنے سینہ پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ فوراً خلاصی ہوگی، بچہ کی پیدائش کے فوراً بعد نقش کھول دیں، نقش یہ ہے۔

یاحی	یاقیوم	یاخدا	ص	یامخلص
یاخواجہ	خضر	یامصطفیٰ	یامحیط	یاغنی
اللہ	وکیل	الیاس	سندی	دریاندی

نقش چھٹکارا

جس عورت کو درد کی تکلیف شدید ہو اور اولاد ہونے میں تنگی ہو اور بغیر آپریشن کے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہ آئے تو یہ نقش باوضو لکھ کر دیں عورت دائیں ران میں باندھے انشاء اللہ بچہ کی جلد پیدائش ہو، پیدائش کے بعد نقش کھول دیں، نقش یہ ہے۔

و۶	۱۱	ح۸
ز۷	ہ۵	ج۳
پ۲	ط۹	د۴

بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے

اگر دوران پیدائش شکم میں بچہ فوت ہو گیا ہو تو یہ نقش تحریر کر کے عورت کو پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ مردہ بچہ ماں کے پیٹ سے بغیر آپریشن آئے گا۔ طلسم یہ ہے۔

ح	ح	ح	ع	ع	دد	ک اا	ح ح ع ع دو کہ دوظ
در	۳۵۱	لہ	لہ	لہ	ک	دو	۳۵۱ کہ او کہ ک رو

آسانی ولادت

اس طلسم کو لکھ کر عورت کے داہنے بازو پر باندھیں انشاء اللہ بچہ جلد پیدا ہو گا، اگر اس طلسم کو زچہ کے ہاتھ پر لکھے اور زچہ اس نقش کو غور سے دیکھے تو ولادت جلد ہو۔ طلسم یہ ہے

ج ح خ ط ظ غ ف ق ی ک ل

اا ششم ۵ ۵ ۵ ۱ سو ک ل م

سو باندھنا، حمل نہ ہو۔

اگر کسی عورت کی سو باندھنا مقصود ہو تو اس طلسم کو لکھ کر وزن کے نیچے رکھیں اگر بچہ کی پیدائش میں وقفہ کی ضرورت ہو تو اس طلسم کو تحریر کر کے عورت بائیں بازو میں باندھے انشاء اللہ حمل نہ گا، طلسم یہ ہے۔

موجو ۔ سورا

سویرا ۔ سعذہ

برائے سو باندھنا

اس طلسم کو عورت کے بائیں ہاتھ پر تحریر کریں اور عورت اس کو غور سے دیکھے تو

سو فوراً بندھ جائے گی، طلسم یہ ہے

۵۵	ـ	۲۶۷
۲۷۷	ـ	۱۴۲

باب ہفتم

"میٹھی مرادیں"

ان تمام عملیات میں نقش یا طلسم لکھتے وقت دعا بر ہیہ کو تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔

اولاد نرینہ

اگر کسی عورت کے سوائے دختر کے لڑکا پیدا نہ ہوتا ہو یا جس کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو چاہیے کہ اس کو نقش ہذا تحریر کر کے پہن لے انشاء اللہ فرزند نرینہ عطا ہوگا، نقش یہ ہے۔


۷۸۶
حمعسق
۲۱۴۷
کھیعص
۳۱۴ط
ب ۲۲
۴ی۴
۱۴ار
ز۲۱۴
ط ل ۱۱
۱۴ار
۲۱۴
۲۱۳۴
ح ل ۲۱
الر ☆ ۱۱آم
۲۱۳۸
#۱۱۱ ھے ق المر

طلب فرزند

اگر کسی عورت کے ہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں اور لڑکا پیدا ہو کر مر جاتا ہو یا لڑکا پیدا نہ ہوتا ہو ایسی مریضہ کیلئے اس کے حمل کو تین ماہ گزرنے سے قبل یہ نقش مبارک تحریر کر کے دیا جائے اور حاملہ اس کو اپنے گلے میں پہن لے تا کہ نقش اس کے پیٹ پر

لٹکتا رہے انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا اور طبعی عمر پائے گا، نقش یہ ہے۔

الف۹	ح۹ق	ح	ط۳
۷	م	ص	۹ص۱
۳۷	و	ر	ج۹
۲۰۱	ب۹	ح۳	۵

اللہ یعلم ماتحمل کل انثی وما تغیض الارحامه وما تزداد وکل شی عنده بمقدار عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال یزکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا

اس رفتار سے نقش کو پُر کریں

۲	۱۳	۱۲	۷
۱۱	۸	۱	۱۴
۵	۱۰	۱۵	۴
۱۶	۳	۶	۹

اولاد نرینہ کیلئے

مکمل سورۃ آل عمران لکھ کر پانی کے جگ یا بوتل میں گھول دیں میاں بیوی دونوں ہر روز صبح نہار منہ اور عشاء کے بعد پئیں حتماً اولاد نرینہ ہوگی، سات دن بلا ناغہ یہ عمل ماہواری سے فارغ ہونے کے بعد شروع کیا جائے اسی سورۃ آل عمران لکھ کر بے اولاد عورت اپنے گلے میں بھی ڈال لے یہ نقش جمعہ کے دن ساعت اول میں عروج ماہ لکھے۔

فرزند کیلئے

اس طلسم کو لکھ کر عورت اپنے گلے میں ڈالے بعد ازاں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد یہ طلسم بچے کے گلے میں ڈال دے۔ طلسم یہ ہے۔

مصح	وملہ	سح
سحب	مطراد	رفمہ

بیٹا ہوگا

اگر حاملہ عورت اس نقش کو اپنی دائیں ران پر حمل کے دوسرے ماہ باندھے تو انشاء اللہ وہ عورت لڑکا چاہے گی تو لڑکا پیدا ہوگا، اور لڑکے کا نام محمد یا حسن، حسین، رکھنا ضروری ہے

نقش یہ ہے

ش	ا	خ	م
م	خ	ا	ش
ا	ش	م	خ
خ	م	ش	ا

چال

۲	۱۳	۱۲	۷
۱۱	۸	۱	۱۴
۵	۱۰	۱۵	۴
۱۶	۳	۶	۹

سورۃ البقرہ سے شرطیہ بیٹا پیدا ہوگا

سورۃ البقرہ کی یہ تاثیر ہے کہ جو خاتون حمل کے معلوم ہونے کے بعد ہر ماہ چاند کی پہلے سات دن روزانہ ایک بار سورۃ البقرہ پڑھے یا غور سے سنے یہ عمل نو ماہ تک جاری رکھے تو انشاء اللہ شرطیہ بیٹا پیدا ہوگا، طبعی عمر پائے،

میٹھی مراد (مجرب المجرب)

جو لوگ نرینہ اولاد سے محروم ہوں ان کے لئے یہ عمل میٹھی مراد ہے مرغی کے تین

انڈے لے کر ابالیں اور تینوں انڈوں کے چھلکے اتارلیں اس کے بعد ایک انڈے پر لکھیں **"والسماء بینھا باید وانا لموسعون"** اس انڈے کو شوہر کھالے۔

دوسرے انڈے پر لکھیں **"والارض فرشنھا فنعم الماھدون"** اس انڈے کو بیوی کھالے۔ تیسرے انڈے پر لکھیں۔ **"ومن کل شی خلقنا زوجین لعلکم تذکرون"** اس انڈے کو کاٹ کر آدھا آدھا دونوں میاں بیوی کھالیں اس کے بعد صحبت کریں، یہ عمل ماہواری سے فارغ ہونے پر کیا جائے، انشاء اللہ حمل قرار پائے گا،

سو بد لنے کیلئے

اگر کسی عورت کے ہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں اور لڑکا نہ ہوتا ہو تو حمل کے اڑھائی ماہ بعد حاملہ کی ناف پر آیات مبارکہ کو سات بار پڑھ کر سات دن تک دم کریں ہمراہ اس آیت کا نقش لکھ کر عورت اپنے گلے میں ڈالے نقش ناف تک لٹکا رہے۔ اور بیٹے کا نام محمد۔ حسن۔ حسین رکھنا ضروری ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد ایک بکرا ذبحہ کریں خیرات کی نیت سے انشاء اللہ بچہ طبعی عمر پائے گا۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

"اللھم ان کنت خلقت خلقاً فی البطن ھذہ المراۃ فکوتہ ذکراً واسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب لا تذرنی فرد وانت خیر الوارثین۔"

اولاد نرینہ ہوگی

جس عورت کی اولاد نہ ہوتی ہو اور وہ نرینہ اولاد سے محروم ہو نقش عروج ماہ یکشنبہ زعفران سے لکھیں تین روز مباشرت کریں نقش کو زمزم یا آب باراں سے پیا جائے نقش

جمعہ کو شروع کرے انشاء اللہ لڑکا ہوگا نام محمد۔ حسن۔ حسین رکھے ایک بکرا خیرات کرے،

زل	ھل	جل
ول	اج	حل
بل	طل	دل

بانجھ عورت کا لڑکا ہو

بانجھ عورت کیلئے یہ عمل خاص ہے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر بعد از حیض عورت تعویذ کو ایک ماہ تک پیا کرے اور ایک کمر میں باندھے انشاء اللہ فرزند پیدا ہوگا،

ہ	بف	ب	اللہ	اللہ
ل	دب	د	ح	لا
لا	مج	کا ا	ل د	ع ا
زکث	۸۳۲	صیاج	حم	[illegible]
۵۶۱	۳۳	۱۰	[illegible]	۰

حمل ضائع نہ ہو

اگر کسی عورت یا جانور کا حمل ضائع ہو جاتا ہو یا دودھ کم ہو تو اس نقش کو لکھ کر عورت اپنے گلے میں ڈالے انشاء اللہ حمل ضائع نہیں ہوگا اور دودھ بھی اترے گا، نقش یہ ہے

ھر	ھر	ھر	ھر
ش	ی	ر	ھر
و	لا	ے	۱۹

بانجھ کے ہاں بیٹا ہو

بانجھ عورت کی ناف پر یاوارث سات بار لکھیں یہ عمل بعد نماز عشاء فراغت ایام کے بعد شروع کریں اور میاں بیوی عمل زوجیت بھی دھرائیں یہ کام سات دن تک جاری رکھیں اس طرح یہ عمل ۳ ماہ کریں حمل قرار پائے اور بانجھ کے ہاں لڑکا ہوا انشاء اللہ۔

بیٹا ہی ہو

حمل کے دوسرے تیسرے ماہ مرد چاند کی پہلی تاریخ سے سات تاریخ تک حاملہ کے پیٹ پر یا مضور ۱۱ بار لکھے انشاء اللہ بیٹا پیدا ہو نام محمد رکھیں اور بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ایک بکرا خیرات کرے۔

اولاد نرینہ کیلئے

اگر حاملہ عورت چاند کی یکم سے ا تک **اشمخ** ۱۱۱ بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے ۹ ماہ تک انشاء اللہ بیٹا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے بعد ایک عدد دنبہ ذبح کرنا ضروری ہے

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرگودھا روڈ جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

وارث

نام حاملہ مع والدہ کے اعداد قمری لیکران میں ۹۴۱ کا اضافہ کر کے ایک نقش مربع قائم کر کے مشک وزعفران اور گلاب کی روشنائی سے اس وقت تحریر کریں جب قمر کی سات تاریخ ہو اور لوبان کا بخور دیکر حاملہ کی دائیں ران پر باندھیں، حمل کی مدت کم ازکم ۲ ماہ ہونا ضروری ہے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ ضرورت مند فائدہ عظیم حاصل کریں پیدائش لڑکے کے بعد ایک عدد دنبہ ذبح کرنا ضروری ہے، مثال، نام عورت مع والدہ کے قمر اعداد

۸۹۴ قانون کے مطابق ۹۴۱ جمع کئے تو میزان آیا ۱۸۳۵

اس کے بعد قانون کے ۳۰ اعداد تفریق کئے تو حاصل آیا ۱۸۰۵÷۴=۴۵۱

اگر تقسیم سے ایک باقی بچے تو خانہ نمبر ۱۳ میں ایک کا اضافہ کردیں باقی ۲ ہو تو خانہ ۹ میں ایک کا اضافہ کردیں اگر باقی ۳ رہیں تو خانہ نمبر ۵ میں ایک اضافہ کریں، نقش پر ہو جائیگا، مثلاً

۴۵۱	۴۶۵	۴۶۱	۴۵۸
۴۶۲	۴۵۷	۴۵۲	۴۶۴
۴۵۶	۴۵۹	۴۶۷	۴۵۳
۴۶۶	۴۵۴	۴۵۵	۴۶۰

باب ہشتم

"جانوروں کا علاج"

ان تمام عملیات میں نقش یا طلسم لکھتے وقت دعا برہتیہ کو تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔

اگر مال مویشی کثرت سے مرجاتے ہوں

ایک قسم کا جادو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے مال مویشی وغیرہ مرنے لگتے ہیں اگر کسی کا بھینس بکروں یا بھیڑ مرغیوں وغیرہ کا کاروبار ہو اور اسی میں مندا ہو اس صورت میں پالتو مال کثرت سے مرجائے تو یہ عمل اس واسطے مطلق تدارک ہے مندرجہ ذیل دو نقوش مبارک تحریر کر کے ہوا میں لٹکائیں، جہاں جانور باندھے جاتے ہوں انشاء اللہ جانوروں میں برکت ہوگی اور ساتھ سحر جادو سے تحفظ اور اصلاح بھی ہو جائے گی، یہ نقوش مجرب المجرب ہیں۔ سیدھی طرف یہ نقش لکھیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یاحفیظ	یارحیم	یاحافظ
یا کریم	یاحی	یاقیوم
یارحمن	مانع	صمد

نقش کے دوسری طرف یہ نقش لکھیں

یاحافظ یاحفیظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاحافظ یاحفیظ

م۲۴۴	د۲۴۴۵	الف۲۴۴۵	ح۲۴۴۴
ب۲۴۴۵	ز۲۴۴۴	ام۲۴۴	ج۲۴۴۵
و۲۴۴۴	ط۲۴۴۴	۲۴۴۵۶	۴۲ت ۲۴
ش۲۴۴	جم۲۴۴	ہ۲۴۴۴	ن۲۴۴

قَالَ مُوسَی مَا جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللّٰہَ سَیُبطِلُهُ إِنَّ اللّٰہَ لاَ یُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدِینَ ۔وَیُحِقُّ اللّٰہُ الحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَلَو کَرِهَ المُجرِمُونَ۔

جان لیوا جادو سے نجات

اگر کسی جانوروں کے فارم پر جادو کر دیا گیا ہو اور جانوروں میں ہلاکت شروع ہو گی ہو تو یہ نقش لکھ کر جانوروں کے گلے میں ڈالیں دوسرا نقش تحریر کرکے جانوروں کو پانی میں پلائیں انشاء اللہ صحت ہو گی، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم :قَالَ مُوسَی مَا جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللّٰہَ سَیُبطِلُهُ إِنَّ اللّٰہَ لاَ یُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدِینَ۔ وَیُحِقُّ اللّٰہُ الحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَلَو کَرِهَ المُجرِمُونَ۔

۹ل۸	۲ن۸	۹م۸	و۸۴
ن۸	۵م۸	م۸	ان۸
د۸۴	ز۸۴	د۸۵	ام۸

ج۸۵	ب۸۴	۸۴۳	ح۸۴

قَالَ مُوسَی مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۔وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔

۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۴	۵	۱۰

اس نقش کی دھونی دیں

جانوروں کو جوڑوں کا درد

اکثر جانوروں میں جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ایک جادو کی خاص قسم ہے اس نقش کو لکھ کر جانوروں کے بھانے پر لٹکائیں، انشاء اللہ جوڑوں کا درد جانوروں میں نہیں ہوگا، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم



برائے نظر بد

گائے یا بھینس کو اکثر نظر لگ جاتی ہے تو یہ نقش لکھ کر جانور کے گلے میں ڈالیں

بسم اللہ الرحیم الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق

سعے سعے سعے سعے

۱۰۲ ۲۶ ۲۹۹ ۲۳۱ ۵۸

برائے حفاظت

جس گائے یا بھینس کو نظر لگ جائے اور دودھ دینے کے وقت لاتیں ماریں تو یہ نقش بنا کر گلے میں باندھیں انشاء اللہ مقصد برآویگا۔ نقش یہ ہے

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ★وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۴	۵	۱۰

وَاِن یَّکَادُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُوْنَکَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ★وَمَا هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ۔

بند پیشاب کھل جائے گا

اکثر جانوروں کا پیشاب جادوگر بند کر دیتے ہیں تکلیف کی وجہ سے جانور زور زور سے بولنا شروع کر دیتا ہے، لہٰذا یہ نقش لکھ کر جانور کو پلائیں دوسرا نقش جانور کے گلے میں ڈالیں جبکہ تیسرا نقش زمین پر لکھ کر جانور کو چاروں طرف چکر کٹوائیں انشاء اللہ پیشاب کھل جائے گا، (پلانے اور گلے کا نقش یہ ہے)

”واذاستسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه النتاعشرة عینا قد علم کل اناس مشر علیم وکلوا واشربوامن رزق اللّٰه ولا تعثوفی الارض مفسدین“

زمین پر لکھنے والا نقش

د	د۸	۸
ز	ھ	ا

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکار دو عالم ... جامع مسجد ... تحصیل میلسی ... شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

ب	۹	۶

جادوئی عمل سے بھینس کے دودھ کی بجائے خون آئے

ظالم جادوگر انسانوں کو چھیڑتے چھیڑتے تنگ آجائیں تو پھر اپنا غصہ معصوم جانوروں پر اتارتے ہیں ایسے جادوگروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر جانور کے دودھ کی بجائے تھن سے خون آئے تو آٹے کا ایک عدد پیڑا لیکر اول و آخر درود شریف ابراہیمی ۷ بار ۴ بار سورۃ الفاتحہ آخری تینوں قل شریف ۴ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور یہ پیڑہ بھینس کو کھلا دیں یہ عمل کم از کم ۱۱ دن کرنا ہوگا کیونکہ ادھر آپ علاج کر رہے ہوں اور ادھر جادوگر دوبارہ شرارت کر دے یہ عمل میرا مجرب المجرب ہے میں اکثر جادو کے تمام عملوں کی کاٹ اسی عمل سے میں کرتا ہون، بہتر تو یہ ہے کہ ایک نقش لکھ کر جانور کے گلے میں ڈالیں انشاء اللہ شفاء ہوگی۔

یا اللہ	الصمد	حافظ	یا حفیظ
یا حی	یا قیوم	یا کریم	رحیم
رحمن	الصمد	یا محیط	یا غنی

جانور کو کسی بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا ہو

اگر کسی جانور کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا ہو تو سورۃ الناس ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اس طرح یہ عمل تین مرتبہ کیا جائے اور چینی کی پلیٹ پر ان الفاظوں کو لکھ کر پانی سے دھو کر جانور کو پلائیں انشاء اللہ شفاء ہوگی، حروف یہ ہیں:۔ د ح ل ع ل خ غ

جانور کو کتے نے کاٹ لیا ہو

اگر کسی جانور کو کتے نے کاٹ لیا ہو تو پاک مٹی چکنی کو گوندھ کر دو غولے بنائیں اور غولے بناتے وقت یہ منتر پڑھیں، ”بندر ناچے ریچھ بجاوے کتے کا کاٹا زہر نہ آوے دھائی حضرت پیر مخدوم اخی جمشید کی“ اور جس جگہ کاٹا ہو اس کے گرد گھمائے اور زخم کی جگہ بھی گھمائے اگر کتا زہر دار ہے تو اس کے بال مٹی میں نمایاں ہونگے، دو روز اسی طرح کرے یہاں تک کہ بال مٹی میں ظاہر نہ ہوں تو جان لینا چاہیے کہ اب زہر کا اثر باطل ختم ہو گیا ہے

۔ اور اس نقش کو گلے میں ڈالے۔ ۷۸۶

۴	ح	ل
ع	۲۰۰	خ
۱۰۰۰		

باب نہم

”عشق و محبت اور شادمانی“

ان تمام عملیات میں نقش یا طلسم لکھتے وقت دعا بر ہیہ کو تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔

محبت کا چراغ

اگر کسی کے دل میں اپنی محبت تیز کرنے کیلئے اس طلسم کو سفید کاغذ پر تحریر کریں اور پاکیزہ روئی میں لپیٹ کر نئے چراغ میں لونگ کا تیل ڈال کر بتی کو تین دن روشن کریں اور اس کا سراج محبوب کی طرف کریں اگر ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہو تو پھر بھی محبوب بے تاب ہو کر آئے گا عاملین و کاملین نے اس عمل کو مجرب کہا ہے، (عزیمت یہ ہے)

”طهيلوش مهيلوش كهيلوش الايرقانوش لاعاووعلاهد اسكهيلوش لهيلواه سومره باسم فلاں بن فلاں کا نام لکھیں **بحق عموميل ومضهمر اه به من عشق المحبة والوسة** مطلوب کا نام مع والدہ **بحق هذا الاسماء الميمون المكنون مسلطمتوش الابادووولا شراب الساعة الساعة العجل العجل الوحا الوحا۔“**

برائے حب

۳۱ دانے فلفل سفید لیکر ہر دانے پر ۳۱ مرتبہ عزیمت پڑھیں اور کنیر کی لکڑی کے کوئلوں پر ڈالیں یہ عمل تین دن کریں انشاء اللہ تعالیٰ محبوب طالب بن کر آپکے پاس

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ سرکلر روڈ جامع مسجد ... تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

آئے گا،

”عزمت علیکم یا معشر السحر والوسواس من جنود ابلیس سید المودة والعفاریت والشیاطین عزمت علیکم یا معشر الابالسة الزین یوسون فی قلوب بنی آدم وبنات حوا من صغیر و کبیر و شهوات شتیٰ لمو هیطیهیواهشة نمواکهیو اهشه نموا بنوا کشة هش الر جایا عینه حاجة یا سید یا سید یا ملکه حاجة عظیمة شد یلسة توکلت وهو رب العرش العظیم احرفوا قلب فلاں بن فلاں مطلوب کا نام لیں بعشق ومحبت فلاں بن فلاں طالب کا نام لیں الساعة العجل العجل الوحا الوحا الوحا۔“ اگر پڑھنے میں دقت محسوس ہو تو اس عزیمت کو ۳۱ مرتبہ سفیدی کاغذ پر تحریر کرکے سفید فلفل کا سفوف بنا کر پڑیا باندھ کر کوئلوں پر ڈال دیں۔ کثیر عاملین اس عمل کو دونوں طرح استعمال کرتے رہے ہیں۔

طلسم حب (مجرب المجرب)

اگر مطلوب سرکش ہو اور ملاقات کو آمادہ نہ ہوتا ہو، طلسم عرق گلاب زعفران سے اور بارش کا پانی ملا کر سیاہ مرغی کے انڈے پر لکھ کر آگ کے قریب دفن کریں جیسے ہی انڈہ گرم ہوگا مطلوب محبت والفت میں بے تاب وسرگران ہوگا۔ طلسم یہ ہے۔

۱۱۱٦ ۸۸ ۱۱۱٦۱۱ ۱۱۸لا۱۱۱۱۸م ط لا۱۱۱۱۱۲ھ٦۱۱۱۸۷

احفر وافلاں بن فلاں مطلوب کا نام مع والدہ
بمحبت و عشق فلاں بن فلاں طالب کا نام مع والدہ

ھ ھ ء ۱۱۱ ھ ۱۱۸ ء ۱۱۱۱ ۱۱۸ لا ۱۱۱۸ ء ط لا ۱۱۱۱۱
فلاں بن فلاں محبت بن فلاں العجل الساعة

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرگودھا روڈ جامع مسجد تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

طلسم محبت

اس طلسم کو نیک ساعت زہرہ یا مشتری میں سیاہ مرغی کے انڈے پر تحریر کریں اور آگ میں گرم کرے محبت کیلئے بہت موثر ہے۔ طلسم یہ ہے۔


۳ ۹ ۱۱ ۳ لا ءء ۱۱۱۱ ۱۱۱
۱۱۱ہہہ ۱۱۱ ۹۱ ع ۱۱ ۱۱۱

فلاں بن فلاں بمحبت و مسخر فلاں بن فلاں

طلسم برائے محبت

اگر کسی کو اپنی محبت میں بیقرار کرنا مطلوب ہو تو اس طلسم کو سیاہ مرغی کے انڈے پر شب جمعہ ساعت زہرہ یا منگل کے دن لکھیں اور آگ کے ذریعے دفن کرے حب کیلئے خاص ہے مجرب المجرب ہے ہرگز حرام کیلئے نہ کریں۔ طلسم یہ ہے۔

ا لہ لہ ءءءءءء ا ا ح ج ۹ ۹ ۱ ءء

ءم ام ا ۷ ءء لا لا الہ و ع ع دو ء اان لا ااال

طلسم مطلوب حاضری

سیاہ مرغی کا تازہ انڈہ لیکر اس کو دھویں پھر اس پر مندرجہ ذیل طلسم تحریر کرنے کے بعد مع سائلہ اور عقل ازاق کی دھونی لیکر آگ میں دفن کریں جیسے ہی انڈہ گرم ہوگا مطلوب دروازے پر حاضر ہوگا، طلسم یہ ہے۔


ھہا E۸ح۲۹۹۹ ح۹۹E۲۷۲۳۱
سم
اح لا ۱۳ لا صخ ۹۹٦۳ صح صح ٦ کا و م م
ھم

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرگودھا نزد جامع مسجد محمدی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

محبت کیلئے مجرب

اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہو تو اصحاب کہف کی عبارت کو سفید کاغذ پر لکھیں جاری پانی میں لٹکا دیں انشاء اللہ مطلوب فوراً حاضر ہوگا، عبارت عزیمت یہ ہے

"الھی بحرمت یملیخا مکسلمینا کشفوطط طبیونس کشافطیونس یوانس بوس و کلبھم قطمیر و علی اللّٰہ قصد السبیل ومنھا حائر ولو شاء لھدکم اجمعین و صلی اللّٰہ تعالیٰ علیٰ سیدنا و مولانا محمد و الہ و صحبہ و بارک وسلم الحب فلاں بن فلاں علی الحب فلاں بن فلاں العجل العجل العجل الساعۃ الساعۃ الوحا الوحا الوحا

محبت کا مجرب نقش

یہ نقش وہ ہے جو ہزاروں میں ایک ہے حب کا لاجواب طاقت ور تیر بہدف اور ایک ہی رات میں اپنا اثر دکھاتا ہے اس نقش کے تین موکل ہیں جو بہت ہی طاقتور ہیں اور فوری طور پر کام کر دکھانیوالے ہیں اگر مطلوب کو حاضر کرنا یا میاں بیوی میں ناراضگی ہو اس نقش کو ساعت مشتری یا زہرہ میں لکھیں اس کو وزنی پتھر یا اپنی چارپائی کے دائیں پائے کے نیچے دیکر سو جائیں انشاء اللہ تعالیٰ اس رات مطلوب جہاں بھی ہوگا بھاگ کر طالب کے پاس پہنچے گا اس نقش کی اجازت ضروری ہے۔ نقش یہ ہے۔

۹۵۱	۹۶۴	۹۶۱	۹۵۸

۹۶۲	۹۵۷	۹۵۲	۹۶۳
۹۵۶	۹۵۹	۹۶۶	۹۵۳
۹۶۵	۹۵۴	۹۵۵	۹۶۰

الحب فلاں بن فلاں علی الحب فلاں بن فلاں بحرمة این نقش بیقرار شود، زود بیاید زود بیاید العجل الوحا الساعة

محبت کا خاص صدری مجرب عمل

اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے یا محبوب تو اپنے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہے تو یہ ایک محبت کا خاص عمل ہے محبوب بیقرار ہو کر آپ کے پاس فوراً آئے سورۃ فیل کو سفید چینی یا شکر پر ۱۹ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور وہ چینی یا شکر محبوب کو کھلا دیں فرمانبردار رہے گا اور کھلا نہ سکے تو کبوتروں کو کھلا دے، انشاء اللہ اثر پورا پائے گا جس طرح عبارت لکھی ہے اس طرح ہی پڑھیں عبارت یہ ہے۔

الم ترکیف بستم خواب و خوردن نام مطلوب مع والده افسون نام مطلوب مع والده علی حب طالب مع والده فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم بستم خواب و خوردن نام مطلوب مع والده علی حب نام طالب مع والده فی تضلیل و ارسل علیهم طیراً ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصفماکول بستم خواب خوردن و آرام نام مطلوب مع والده علی حب نام طالب مع والده۔

سورۃ الفیل کا خاص عمل محبت کیلئے

اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ **الم ترکیف بستم خواب و خوردن نام مطلوب مع والدہ فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدھم بستم خواب و خوردن نام مطلوب مع والدہ فی تضلیل و ارسل علیھم طیراً ابابیل ترمیھم بحجارۃ بستم خواب و خوردن نام مطلوب مع والدہ من سجیل فجعلھم کعصف ماکول الحب نام طالب مع والدہ علی حب مطلوب نام مع والدہ**

ترکیب: ایک پاؤ چینی موتی لیں اور اس کو ۷ حصوں میں تقسیم کردیں چاند کی پہلی جمعرات کو طلوع آفتاب کے وقت پڑھنا شروع کریں ہر حصہ پر عمل عبارت کو ۷ مرتبہ پڑھ کر پہلے حصہ پر دم کریں، اس طرح ساتوں حصوں پر پڑھ کر دم کردیں۔

استعمال کا طریقہ: اب ایک حصہ اٹھا کر مکوڑوں کی بل میں یہ چینی ڈال دیں اس طرح اس طرح ہر روز چینی مکوڑوں کو ڈالیں انشاء اللہ ۷ دن نہیں گزر پائیں گے کے محبوب آپکے سامنے ہوگا۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ مرکز روڈ نزد جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

سورۃ فیل کا عمل حب بے مثال

اس کا طریقہ یہ ہے کہ انیس مرتبہ کسی شکر یا سفید یا سرخ پر دم کرکے مکوڑوں کو کھلا دیں تو مطلوب کا دل آپ کی محبت میں اس طرح بے قرار ہوگا جیسے اس کے دل کو کوئی چیز کاٹ رہی ہو۔ عمل یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحم: **اجب دعوتی یا امعاکیل بستم خواب و خوردن**

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں: الم ترکیف یا جبرائیل بستم دو چشم

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں: فعل ربک یا شمسائیل، بستم دو گوش

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں: باصحاب الفیل یا کلکائیل بستم زبان

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : الم تجعل کیدھم یالومائیل بستم بینی

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : فی تضلیل یامیکائیل بستم ھفت اندام

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : وارسل علیھم یااسرافیل بستم دھن

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : طیراً ابابیل یاترتائیل بستم گلو

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : ترمیھم بحجارۃ یاعزرائیل بستم سینہ

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : یابدوح من سجیل یاکشفائیل بستم قلب

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : فجعلھم یااجمائیل بستم شکم

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : کعصف ماکول یاتنکافیل بستم ناف ودبر

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں : سامعاً مطیعاً حافظا اجب بحق الم ترکیف یارب العالمین۔

سورۃ فیل کا باموکل عمل حب

اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انیس ۰۰ شکر سفید یا سرخ پر دم کر کے ککڑوں کو ۷ دن تک ڈالیں چاند کی پہلی جمعرات سے یہ عمل کرنا ہوگا یہ حب کا ایک ایسا عمل ہے جو پتھر سے پتھر مطلوب ومحبوب کو اپنی محبت میں دیوانہ وار کرنے کا مجرب المجرب تاثیر میں ڈوبا ہوا عمل ہے اس عمل کا اثر اتنا قوی ہے کہ ایک ہفتہ میں مقصد پورا ہو جاتا ہے، اکثر تو صرف ۲۴ گھنٹے میں اس عمل کا اثر دیکھنے میں آیا ہے۔ عمل یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم : اجب یا اسرافیل بحق الم ترکیف ویا حزُوزائیل بحق فعل ویا مواکیل بحق ربک ویا جبرائیل بحق باصحاب الفیل یا طاطائیل بحق الم یجعل ویا دردائیل بحق کیدھم ویاسر حمائیل بحق فی تضلیل ویا رفتمائیل بحق و

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد تحصیل عیسیٰ شریف ضلع وہاڑی
Ph. 0307-5908474 , 0322-6865052

ارسل علیهم و یا اسماعیل بحق طیراً ابابیل و یا عزرائیل بحق ترمیهم و یا تنکفیل بحق بحجارۃ و یا رویائیل بحق من سجیل و یا کلکائیل بحق فجعلهم و یا لوخائیل بحق کعصف ما کول القوالمحبت والمودۃ فی قلب فلاں بن فلاں وعقد و نومها العجل الساعۃ الوحا۔

اور شکر ڈالتے وقت یہ کہے آج رات فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کی محبت میں سونے نہ دو۔

طلسم محبت خاص

اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہو تو اس طلسم کو لکھ کر آگ میں دفن کریں یا جاری پانی میں لٹکائیں انشاء اللہ محبوب بیقرار ہو کر آپ کے پاس آئے۔ طلسم یہ ہے۔



الحب فلاں بن فلاں طالب علی حب فلاں بن فلاں مطلوب

طلسم حب مجرب

اس طلسم کو کاغذ پر تحریر کر کے اس میں لوبان رکھ کر شب جمعہ کو جلائیں اور اکیس مرتبہ دعا برھتیہ تلاوت کریں مطلوب دیوانہ وار حاضر ہوگا، طلسم یہ ہے۔

ھھم مممم ھھھه ل ل م م ۷۷ م م

وتکلوا یاخدام ھذا الطلسم وھیجوا کذ بمحبۃ کذا

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

طلسم حب بکری کا شانہ

اس طلسم کو باوضو (بکری کے شانہ عورت کیلئے اور بکرے کا شانہ مرد کیلئے) پر تحریر کریں اور کوئلوں کی دہکتی ہوئی آگ یا تندور میں جلا دیں مطلوب بھاگتا ہوا آئے۔ طلسم یہ ہے۔

۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ عه ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۹۷

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد مدنی تحصیل میاں شریف ضلع ...
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

طلسم محبت

اس طلسم کو لال سیاہی سے باوضو کوری ٹھیکری پر تحریر کریں اور پرانی قبر میں دفن کر دیں یہ عمل مسلسل ۳ دن کریں، انشاءاللہ محبوب قدموں میں ہوگا، طلسم یہ ہے۔

۱۱ ۱۱۱ دل اح درام ۱۸۱ لالا ۱۱

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

محبت کیلئے

اس طلسم کو لکھ کر درمیانی خانہ میں سراخ کریں، دھاگہ ڈال کر درخت کے ساتھ لٹکا دیں پھر لکھیں۔ طلسم یہ ہے۔ یہ جناب بشیر احمد مرحوم نے اپنی زندگی میں ارسال کیا تھا۔

اس خانہ میں سوراخ کریں

یاالمعید	یاالمعید	یاالمعید

الحب فلان بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

محبت کیلئے

اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو یا اس کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہو تو اس طلسم کو کالی مرغی کے انڈے پر نیا چاند دیکھ کر پہلی جمعرات کو صبح یہ طلسم باوضو لکھے اور اس انڈہ کو آگ میں دفن کر دے، طلسم یہ ہے۔


١١٨٦ ١١ ٦ و ا ع ١١ ١١ ١٢ ١١ ھ حم ١٩٩٩١٩٩٩٣٤٨
ح
الحب فلاں بن فلاں طالب علی حب فلاں بن فلاں مطلوب

حب کا مجرب طلسم

اس طلسم کو لکھ کر معشوق کے گھر میں یا اس کے گھر کی دہلیز میں کہیں دبا دو چند گھنٹوں میں اثر دکھائیگا انشاء اللہ۔ طلسم یہ ہے۔


اب
ج د
ھ
ب
ط
درغ ح
حــــد
ح د
ع ع
ح ح

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

حاضری مطلوب کیلئے سات خاص طلسم (مجرب)

عروج ماہ میں جمعہ کے روز زہرہ یا مشتری کے ساعت میں سات الگ الگ

کاغذوں پر ایک ایک طلسم تحریر کریں اور پھر ہر کاغذ میں سات دانے مرچ سیاہ کے ڈالیں روزانہ ایک کاغذ کا فتیلہ بنا کر خوشبو دار تیل میں تر کر کے جلائیں اور جلاتے وقت مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت کریں انشاء اللہ محبوب بیقرار ہو کر حاضر ہوگا، اور پھر کبھی جدا نہ ہوگا۔

جمعہ کی رات کا طلسم یہ ہے۔

ھاروت وماروت اجب یامذہب بکذا وکذا

۸۸۱ ۳۷ ۷ ۷۸۸ ۹۹ ۱۳

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

ہفتہ کی رات کا طلسم یہ ہے۔

ھاروت وماروت اجب یا امر بکذا وکذا

۱۱ ۸۸۷ ۱۱ ۱۱ ۸۸ ۳ ۳۳ع ۱۱۷ ۱۱ع ۱۱

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

اتوار کی رات کا طلسم یہ ہے۔

ھاروت وماروت اجب واخطف یا احمر بکذا وکذا

ی لا ۸۱۱ ۱۱ ۱۱ ۲ ۳۳ ۱۱۱۷ ۱۱۱

سوموار کی رات کا طلسم یہ ہے۔

ھاروت وماروت عجل اجب یا برقان بکذا وکذا

ط لا ۱۳ ۳لا ۸۸۱ ۱۱۱۱ ۸ ۸

منگل کی رات کا طلسم یہ ہے۔

ھاروت وماروت طیہ یا شمھورش بکذا وکذا

لحص ۳۱ ووو ۱۱۱ مممم

بدھ کی رات کا طلسم یہ ہے۔

ھاروت وماروت زلزل یا ابیض بکذا وکذا

او۷ ۲ ۱۱۱ ۸ ۷ط الا ۳ لا

جمعرات کی رات کا طلسم یہ ہے۔

ھاروت وماروت خلنخل یا میموں بکذا وکذا

۳ط ۷ ۷۱۱ط ۷م ۱۱۱۱لا تم وکمل

عشق ومحبت کا عمل

تمبا کو لے کر پیوری پر اس منتر کو ۲۱۷ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور جلا دیں، عمل آپکے ہاتھ میں آجائیگا، اس کے بعد صرف سات مرتبہ پڑھ کر تمبا کو پر دم کر کے اسے ہاتھ میں مسل دیں اور آگ لگا دیں اور جلانے کے دوران منتر پڑھتے رہیں، ''گرھس'' کی جگہ طالب مع والدہ اور ''گرھسی'' کی جگہ مطلوب مع والدہ کا نام لیں فوراً تاثیر شروع ہوگی، عمل یہ ہے۔

''سکھ لکھے ساگر نارے نارے بیج سریم ھد بھد ھنڈارے گرھس سیج دلھریم آوے آوے جان بھی وارے گرھسی تریج پریم۔''

محبت کا منتر

کالا کلموا چونسٹھ ویر میرا کلوا بھکا تیر جھا کو بھیجوں وھاں کو جاوے مانس مچھلی چھوون نہ جائے اپنا مارا آپ ھی کھائے، چتل بان ماروں الٹ مٹھ ماروں مار مار کلوا تیری آس، چار چومکھ دیا نہ باقی جاماروں اس کو چھاتی یدی اتنا کام میرا نہ کرے تو مجھے اپنی ماں کا پیا دودھ حرام

ھے دھائی اسمعیل جوگی کی،

پہلا طریقہ : جو کس اپنے بس میں کرنا ہو تو کٹی ہوئی سپاری پر ایک سو ایک بار منتر پڑھ کر اور سپاریو کو پان میں رکھ کر کھلانے سے ہی بستی بھوت ہوگا،

دوسرا طریقہ : سپاری کو پوڈر بنا کر طالب و مطلوب کی تصویر بنا کر منتر کو ۱۰۱ مرتبہ پڑھ کر سپاری پوڈر راو پر دم کریں شہد کے ساتھ اس پوڈر کو مطلوب کی تصویر پر لگا دیں طالب کی تصویر پر طالب کا نام مع والدہ اور مطلوب کی تصویر پر مطلوب کا نام مع والدہ لکھیں پھر ان دونوں تصویروں کو آپس میں ملا کر کھلے منہ والی بوتل میں ڈال کر لٹکا دیں درخت کے ساتھ انشاء اللہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی مطلوب آپکے سامنے ہوگا، آزمائش شرط ہے۔

محبت کیلئے

اس نقش کو لکھ کر و[illegible] کے نیچے رکھیں۔

۷۸۶

۸۲	۸۹	۸۴
۸۷	۸۵	۸۳
۸۶	۸۱	۸۸

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

محبت کا تیر بہدف عمل

اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا مقصود ہو تو طالب مع والدہ کے اعداد شمسی لیں اور مطلوب مع والدہ کے اعداد بھی شمس میں لیں خیال کریں کہ یہاں بن اور بنت کے اعداد بھی جمع کرنے ہوں گے اور قانون کے ۱۲۰۰۸ جمع کر کے مثلث خا کی آبی پر کریں اور نیچے یہ لکھیں الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں۔ ایک مثلث کو وزن کے نیچے

رکھیں ، اندھیرے کمرہ میں دوسرے کو نہر کے کنارے دفن کریں، یہ نقش ۲۴ سیکنڈ، ۲۴ منٹ، ۲۴ گھنٹے کے اندر کام کرے گا، انشاء اللہ محترم قارئین کرام حب کے عمل کیلئے بڑے بڑے عاملین در بدر بھٹک رہے ہیں ان کیلئے یہ خاص تحفہ ہے جو میرا مجرب المجرب ہے آج تک عملیات کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اس عمل نقش کی اجازت لینا بہت ضروری ہے ورنہ رجعت ہوگی، میں ایک مثال سے آپکو مثلث نقش پر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرگودھا روڈ نزد جامع مسجد تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

نام طالب علم مع والدہ کے اعداد شمسی = ۱۲۵
نام مطلوب مع والدہ کے اعداد شمسی = ۲۲۰
قانون کے اعداد = ۱۶۰۰۸
میزان = ۱۶۳۵۳
قانون کے نفی کئے = ۱۲
باقی میزان = ۱۶۳۴۱÷۳ = ۵۴۴۷

اب ان اعداد کے نقش یہ ہیں

آبی نقش یہ ہے

۵۴۴۸	۵۴۵۳	۵۴۵۲
۵۴۵۵	۵۴۵۱	۵۴۴۷
۵۴۵۰	۵۴۴۹	۵۴۵۴

خاکی نقش یہ ہے

۵۴۴۸	۵۴۵۵	۵۴۵۰
۵۴۵۳	۵۴۵۱	۵۴۴۹
۵۴۵۲	۵۴۴۷	۵۴۵۴

یہاں لکھیں یا پیر سباڑی موم پتھر سب کردے پانی

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

نوٹ : یہ نقش طلسماتی ہے اگر طلسماتی نقش سے کام لیا جائے تو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی قارئین کرام میں نے اپنا دل نکال کر آپکے سامنے رکھ دیا ہے اگر طلسماتی عمل سکھنا چاہتے ہیں تو ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ کے اس نمبر پر رابطہ کریں **0307-5908474:** ۔ شکریہ

آنکھ جھپکنے سے پہلے

یہ بھی ایک خاص الخاص طلسم ہے ۔ آج تک کسی بھی کتاب میں اس کی اشاعت نہیں ہوئی یہ بھی قدیمی طلسم صرف اور صرف نسل در نسل ہماری طرف منتقل ہوتا آرہا ہے لہٰذا دادا حضور کے حکم کے مطابق اس کی اشاعت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، آپؒ فرماتے تھے کہ عاملین حب کے عمل کیلئے دن رات ایک کئے ہوئے ہیں مگر پھر بھی کامیابی نہیں ملتی یہ ایک ایسا طلسم ہے جو محبوب کو فوراً آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے جتنی آپ کے اندر روحانیت کی طاقت زیادہ ہوگی اتنی ہی جلدی آپ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ طلسم یہ ہے۔

اعحق ددرا سلصع طقعل کولاملوخ ہرادحودہ رسش صوطح عوکالسمظ واھہ ارحی دورب ساصط طنعی کقلل مبووھدام حارغ روس حتطوعچکش لمعل وبھوا گحود شرز سب صاطنعو کبلی منوی ھواش حشدورشص متطرعگکب لدمن مطلوب کا نام مع والدہ عفکی لغصر و ضھواحق دفری ساصل طمعح کبلت مووا ھلام حوددرۃ سص طالب کا نام مع والدہ۔

نوٹ :اس طلسم کورات کے وقت لکھنا ہوگا قمر درعقرب زہرہ مشتری قمر مقابلہ تربیع زہرہ ثور

میں و عنبری طلسم رکھتے وقت خاموش رہیں ورنہ طلسم کام نہیں کرے گا، محنت ختم ہو جائیگی، بخور بھی جلائیں یا گلاب کا عطر استعمال میں لائیں قارئین کرام اگر آپ یہ طلسم مکمل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ کا رکنیت فارم پر کر کے ارسال کریں آپکو مکمل تفصیل سمجھا دی جائیگی، بغیر اجازت یہ طلسم استعمال نہ کریں ورنہ سخت رجعت ہونے کا خطرہ ہے۔

محبت کا خاص طلسم

قارئین کرام یہ طلسم بھی آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ طلسم محبت کا خاص طلسم ہے یہ بھی ہمارا خاندانی عمل ہے جو آج آپکے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ طلسم بھی آپکی محبت کے ان اعمال میں کام دے گا جو آج تک آپ نے کئے مگر کامیاب نہ ہو سکے اب اندھیری رات چھٹ گئی اب تو اجالا ہی اجالا ہوگا، استعمال کریں پھر بتائیں کامیابی ملی ہے یا نہیں، انشاء اللہ ہر وقت کامیابی ہی کامیابی ملتی رہے گی، طلسم یہ ہے۔

اخحت دمرا سلصل طهعع [illegible] مقوں هواب حهد [illegible] روسع صلطی عاکب لصما ورهه امحد مطلوب کا نام مع والده رفسی صاطل عمکح لبمت وو ها الهم دورد سهاح طالب کا نام مع والده،

استعمال کا طریقہ :ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ کے اس نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ لیں۔ شکریہ

رابطہ نمبر **0307-5908474:**

برائے محبت

عروج ماہ دوشنبہ کو زعفران سے لکھ کر درخت انار کے ساتھ باندھ دیں انشاء اللہ

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ ... مسجد ... تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph:0307-5908474 , 0322-6865052

محبوب بے قرار ہو جائیگا، نقش یہ ہے۔



الٰہی بحق ایں مطلوب بحق فلاں بیقرار شدہ حاضر کرو العجل

محبت میں بیقراری

اس نقش کو عروج ماہ کی نو چند جمعرات یا اتوار کو لکھیں اور درخت انار یا آم کے ساتھ لٹکا دیں انشاء اللہ محبوب بیقرار ہو کر آپکے پاس آجائے گا۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دوده	ع ٥ه	بدما
١٠اع	اصاع	مال
ەوە	٥ط	الله
ع اوا٦	ح ط	اورح
اس ولح	اوع	اا
من	طاع	اا

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

عمل حب

اس طلسم کو اتوار یا جمعرات کو عروج ماہ لکھیں اور وزن کے نیچے رکھ دیں انشاء اللہ محبوب آپکے قدموں میں ہوگا، نقش یہ ہے۔

ابر ما صبر ما صار صا صور ماہ
الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں
العجل الساعۃ الوحا

سنگدل محبوب آپکے سامنے

اگر محبوب بہت سنگدل ہے اور ہر جتن کرنے کے بعد بھی آپکی بات نہ مانتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے اپنے پاس رکھے انشاءاللہ محبوب نرم دل ہو کر آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا، نقش یہ ہے۔

۷۸۶

د	ا	و
د	۱۵	د
ا		د

یا مقلب القلوب قلب فلاں ابن فلاں (مطلوب کا نام)
سخر لی بحق فلاں بن فلاں (نام طالب) کما سخرت الحدید لداؤدؑ

حب کا ایک خاص عمل (مجرب)

استاد کاش البرنی نے بھی یہ عمل اپنی کتاب عامل کامل میں پیش کیا ہے یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے طریقہ یہ ہے ایک ہزار دانہ گندم گن لیں ان پر ایک ایک مرتبہ ذیل کا عمل پڑھیں پھر ان دانوں کو کسی پاک برتن میں ڈال کر اور پانی ڈال کر نرم نرم آنچ نیچے کر دیں جب پانی گرم ہو جائے اور دانے بھی گرم ہو جائیں یعنی پکنے نہ لگیں بلکہ گرم ہو جائیں تو ان دانوں کو نکال کر دریا یا نہر میں ڈال دیں اس طرح سات دن یہ عمل کریں وہ شخص بیقرار ہو جائے گا اور آپ کے ملنے پر مجبور ہو جائے گا، عمل یہ ہے

یا رحمن برحمتہ فلاں بن فلاں در محبت فلاں بن فلاں گرم گردو

یہ عمل ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ کا خاص عمل ہے، اس عمل کو سینکڑوں مرتبہ استعمال میں لایا گیا ہے کبھی بھی خطاء نہیں ہوا، آپ بھی اپنے عمل میں لائیں انشاء اللہ دعا کریں گے،

محبت کا نقش

اس نقش کو لکھ کر انار کے درخت کے ساتھ باندھیں۔ نقش یہ ہے

۲	۹	۴
۷	۵	۳
۶	۱	۸

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

محبت کیلئے خاص عمل (مجرب)

اس نقش کو تحریر کر کے وزن کے نیچے رکھیں انشاء اللہ محبوب بیقرار رہوگا،

۷۸۶

الم	حم	الر	المر
طس	طسم	یٰسین	ن
کھیعص		المص	ص
ق	حمعسق		طہ

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

حروف مقطعات سے حب کا عمل

یہ نقش بھی بہت خاص ہے اکثر عاملین حب کا کام اس نقش سے لیتے ہیں یہ تین عدد نقش تحریر کریں ایک قبر میں دفن کریں دوسرا آب رواں میں تیسرا وزن کے نیچے رکھیں

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد بدر مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

انشاء اللہ محبوب ۲۴ گھنٹے کے اندر آپکے پاس ہوگا، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الم الم المص المرالرالر کھیعص طہ طسم طس طسم الم الم الم الم

یٰسین ص حم حم حم عسق حم حم حم حم ق ن

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

معشوق قدموں میں

اگر کسی شخص کو یا محبوب کو اپنے قدموں میں ڈالنا ہو تو اس نقش کو تحریر کر کے آگ میں دفن کر دیں، ۱۲ گھنٹے کے بعد محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، نقش یہ ہے۔

ا ل د ر س ص ط ع ک ل م و ہ

ا	ل	م	ر
ر	[illegible]	ل	ا
ل	ا	ر	[illegible]
م	ر	ا	ل

یا پیر سباڑی لوہا موم پتھر سب کر دے پانی

دائماً ابداً یا بدوح یا بدوح یا بدوح یا ودود

یا ودود یا ودود یا لطیف یا لطیف یا لطیف

محبت کیلئے

اس نقش کو لکھ کر پھل دار درخت کے ساتھ لٹکائیں محبوب فوراً حاضر ہوگا، قارئین کرام یہ وہ نقش ہے جو آج تک کسی بھی کتاب میں شائع نہیں ہوئے۔

۷۸۶

ا	ک	و	م
م	و	ک	ا
ک	ا	م	و
و	م	ا	ک

الحب فلاں بن فلاں علی حب فلان بن فلاں

طلسم حب خاص الخاص تیر بہدف (حروف مقطعات)

لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اگر سنگدل محبوب ہاتھ نہ آئے تو اس طلسم سے کام لیں انشاء اللہ ۲۱ گھنٹے کے اندر سنگدل سے سنگدل محبوب فوراً آپکے پاس ہوگا، قارئین کرام برائے کرم اس طلسم کو بغیر اجازت استعمال نہ کریں اس طلسم کو بھی تین مرتبہ تحریر کرنا ہے ایک قبرستان میں دفن کریں دوسرا آب رواں اور تیسرا وزنی پتھر کے نیچے رکھیں، لکھنے کا وقت رات کو زہرہ یا مشتری کی ساعت میں تحریر کریں اس طلسم کی مکمل تفصیل ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ سے رابطہ کرکے معلوم کریں۔ نقش یہ ہے۔

ا ح د ر س ص ط ع ك ل م و ه

ا ح د ر س ص ط ع ك ل م و ه

االحل دمرح سمصاطلعر كاالل هورهطاس حطدس رمسى صسطن
عككه ليمع وصها الحم دصرص سقصح طمعع كسلق مطوه ،الحب فلاں
بن فلاں على حب فلاں بن فلاں دائمًا ابداً يا بدوح يا بدوح يا بدوح
يا ودود يا ودود يا ودود يا لطيف يا لطيف يا لطيف العجل العجل العجل
الساعة الساعة الساعة الوحا الوحا الوحا

ا ح د ر س ص ط ع ك ل م و ه

ا ح د ر س ص ط ع ك ل م و ه

بیٹے اور بیٹی کا رشتہ جلد ملے

اگر آپ کو اپنی اولاد کا رشتہ نہیں ملتا تو ۲۱ دن اٹھتے بیٹھتے مذکورہ آیت کا ورد جاری رکھیں، آیت یہ ہے

"امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء" (نمل ٦٢)

من پسند شادی کا خاص عمل (مجرب)

اس عمل سے من پسند لڑکی یا لڑکے سے شادی کے راستے کھل جاتے ہیں اور اگر شادی میں کسی طرح کی رکاوٹیں درپیش ہوتی ہوں تو وہ بھی دور ہو جاتی ہیں یہ عمل لڑکا اور لڑکی دونوں کیلئے مفید ثابت ہوتا ہے عمل نو چندی جمعرات کو بعد نماز عشاء سورۃ الم نشرح گیارہ مرتبہ اور آیات کفایہ سات مرتبہ پڑھیں اول و آخر ١١ مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کریں اگر کوئی من پسند ہو تو اس کا نام لے کر اس سے شادی کی دعا کریں، ورنہ محض شادی ہی کی دعا کریں اس عمل کو لگاتار گیارہ دن تک کریں اس کے بعد اللہ کی رحمت کا انتظار کریں، عمل ختم ہونے کے بعد مندرجہ ذیل نقش سبز کپڑے میں پیک کر کے اپنے گلے میں ڈال لیں، آیات کفایہ یہ ہیں،

"بسم اللّٰه الرحمٰن الرحیم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، وکفی باللہ حسیبا، وکفی باللہ علیما وکفی باللہ شهیدا،۔"

نقش یہ ہے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اس ۳	ہ۳۷	اع ۳	ح۳٦
ب۳۷	ز۳٦	٦٢ ش	د۷ ش
و۳٦	ط۳٦	زع ش	ج س ۳
۳۷٦	د۳٦	۳٦۵	ع ش

اس نقش کو گیارہویں شب میں جو عمل کی آخری شب ہوگی اس میں روشنائی سے یا گلاب و زعفران سے لکھنا ہے، نقش لکھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے یہ نقش لڑکی اور لڑکے دونوں کیلئے مفید ہے انشاء اللہ مذکورہ عمل اور اس کی برکت سے شادی کی رکاوٹیں دور ہوں

گی اور جلد شادی طے ہو جائے گی، انشاء اللہ۔

من پسند شادی کا مجرب عمل

قارئین کرام وعدہ کے مطابق قاری باسط علی صاحب کا عمل اللہ الصمد حاضر خدمت ہے، اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو یا اپنی مرضی کی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہو تو ایک سفید کاغذ پر خوش خط **اللہ الصمد** لکھ کر کمرے کی دیوار پر لٹکا دیں جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے دن میں جب بھی فارغ ہوں اس اسم پر نظر جمالیں اور اپنے مقصد کا تصور رکھیں روزانہ ایک بار یا دو بار دس پندرہ منٹ مشق کریں انشاءاللہ دس دن کے اندر مقصد برآوے گا یہ قاری صاحب کے سینہ کا راز ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔

من پسند شادی کا خاص طلسم

اگر کسی شخص یا عورت کی شادی مطلوبہ جگہ پر نا ہو رہی ہو تو وہ اس طلسم کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے انشاءاللہ بہت جلد شادی ہو جائیگی، طلسم یہ ہے۔

١١ حلھ مرج سدصا

طا عر كالل مسوھطاس

لا حمطرس رمسى

مسطن عككه يمع

ومها اطم دمرص

سقسح طمعع كسلق مطوه

الحب فلاں بن فلان علی حب فلاں بن فلاں

بخت کشائی کیلئے (مجرب)

جس لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہو رہی ہو اور عمر ڈھل رہی ہو اس کیلئے جمعرات کی پہلی ساعت (مشتری) میں یا جمعہ کے دن طلوع آفتاب کو فوراً بعد لکھے اور اچھی قسم کی اگر

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ شخص جان مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

بتی جلائے، عمل یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعش تعش نویش نویش نویش نهریش نهریش نهریش گشورم بخت فلاں بن فلاں یا بنت فلاں، ورغب فی خطبتها کل من راها بحق هذا الاسماء والعظمۃ و بالف الف لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ سیدنا محمد واله اجمعین الطاهرین۔

ہر روز ۱۰۰ مرتبہ درود شریف ابراہیمی پڑھیں ۴۰ دن میں نتیجہ سامنے آجائیگا،

شادی کیلئے (مجرب)

خویش واقارب لڑکی کا رشتہ دینے سے انکار کررہے ہوں یہ نقش راستہ میں ان کے دفن کریں یا مشک وزعفران سے کاسہ چینی پر مثل شربت تمام لوگوں کو پلائیں یا جو راضی نہ ہوں حلوہ پکا کر کھلائیں، ساعت زہرہ میں تحریر کرکے کھلائیں طلسم یہ ہے۔

لحجح لحجح لحجح لحجح لحجح لحجح لحجح لحجح لحجح

ایاک ایاک ایاک ایاک ایاک ایاک ایاک ایاک

وو وو وو وو وو

ایام ایام ایام ایام ایام ایام ایام ایام

فلاں بن فلاں / بنت فلاں الحب فلاں بن فلاں تمام افراد کے نام شامل کریں

۱۱ دن ۵۰۰ مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کریں ہر نماز میں ۱۰۰ مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ ۱۱ دن کے اندر کام ہوجائے گا۔

پیغام شادی (مجرب عمل)

اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کا پیغام کہیں سے بھی نہ آرہا ہو تو یہ عمل پر تاثیر ہے ہزار ہا دفعہ تجربہ کی کسوٹی پر کامیاب ہوا ہے، اس عمل کی روحانی تاثیر انسانی وہم وگمان سے

بے انتہا زیادہ ہے اس عمل کے فضائل اور برکات کو آج تک کوئی نہیں جان سکا عمل کرنے کیلئے توجہ اور یکسوئی کا ہونا اہم ضرورت ہے انشاء اللہ ۱۱ دن کے اندر شادی کے پیغام آنا شروع ہو جائینگے اور ۲۱ دن کے اندر شادی خانہ آبادی ہو جائے گی، عمل یہ ہے۔

لا الہ الھس الا اللہ منھس یا محمد رسول اللہ ھس

فلاں آدمی کا رشتہ میرے پاس لاؤ ھس عصائے موسی برجگرش ذوالفقار مرتضیٰ علی دائنس

۱۴۱ عدد کالی مرچ پر ۱۱ بار یہ کلمہ پڑھ کر ہر مرچ پر دم کریں اور آگ میں ڈال دیں،

برائے شادی

اس نقش کو لکھ کر کنگھے کے ساتھ باندھ کر بالوں میں دیں انشاء اللہ بہت جلد شادی ہو جائے گی، نقش یہ ہے۔

۱۱

	اوم	۲۱	۱۱	
ایں	۱۳	۵	۳۲	۲۷
	۳۷	۲۰	س	

۲۴

نکاح جلد ہو۔

اگر کسی لڑکی یا لڑکے کا نکاح کسی ظالم نے باندھ دیا ہو تو اور اس کی شادی میں رکاوٹ ہی رکاوٹ آ رہی ہو تو اس کو ۱۱ دن کریں انشاء اللہ حاجت برآوے یہ عمل ہر روز بعد

نماز صبح ۵ بار باقاعدگی سے پڑھیں۔ عمل یہ ہے۔ اول وآخر ۱۱ بار درود ابراہیمی پڑھیں، "اعوذ باللہ الواحد الماجد من کل عدو و حاسد" پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر آیت الکرسی کو القیوم تک پڑھ کر سورۃ قل ھو اللہ احد ایک مرتبہ پھر لاتاخذہ سنۃ ولا نوم لہ مافی السموات ومافی الارض من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم مابین ایدیھم وما خلفھم ولایحیطون بشیٍٔ من علمہ تک پڑھ کر ایک بار سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھیں پھر الا بما شاء وسع کرسیہ السموات والارض تک پڑھ کر ایک بار سورۃ قل اعوذ رب الفلق پڑھیں پھر ولا یودہ حفظھما وھو العلی العظیم تک پڑھ کر ایک بار سورۃ قل یاایھا الکفرون پڑھیں پھر لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من اتضی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللہ پڑھ کر سورۃ کوثر ایک بار پڑھیں پھر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لھا واللہ سمیع علیم، کہ کر سورۃ النصر پڑھیں، پھر اللہ ولی الذین امنو یخرجھم من الظلمات الی النور پڑھ کر ایک بار الحمد شریف پڑھیں پھر والذین کفروا اولیٰئھم الطاغوت یخرجونھم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون،"

محبت اور شادی کا نقش

اس نقش کو تحریر کر کے یٰسین شریف کا دم کریں جب مبین پر آئیں تو ۳ بار یا مبین پڑھیں پھر ۱۱ بار درود شریف پڑھیں بعد اپنی شادی کی دعا کریں اور نقش پر ہر ہر مبین کے بعد دم کریں اس نقش کو اپنے پاس رکھیں معمولی غفلت سے یہ نقش غائب ہو جاتا ہے حفاظت شرط ہے، نقش یہ ہے۔

یامبین یامبین

ھم۵۵۳	طن۵۵۳	۵۵۳۵۵	۵۵۳۵۲

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

یامبین یامبین

۵۵۳۵۶	۵۵۳۵۱	وم ۵۵۳	ح ن ۵۵۳
۵۵۳۵۰	ج ن ۵۵۳	اس ۵۵۳	۵۵۳۴۷
س ۵۵۳	۵۵۳۴۸	۵۵۳۴۹	دن ۵۵۳

یامبین یامبین

کشائش بخت

اگر دختر کیلئے رشتہ ملنے کی امید نہ رہی ہو تو یہ عبارت طلسم دوپٹے کے کونے پر لکھ کر سوتے وقت سر کے نیچے رکھ کر سوجائے شوہر کے اسباب پیدا ہو جائینگے، طلسم یہ ہے۔

بسم اللّٰہ و باللہ من عند اللّٰہ و الیہ ترجعون ھوالذی خلقکم من نفین واحدۃ و خلق منھا زوجھا فلما قضی زید منھا باسم فلاں ابن فلاں

۸۸د ۱۱۱ ۸ اول ۲ ۱۲ ۹مم م

۱۱ک۸۱۱۸۷وہ دا۸۸ کا۱۱۸۸۱۱۱۹۱ی اہ

۱۹۰اطاہ۹۲۲۹۲ ۱۱۱ مم ط۱۵۱۱ ۸۱۹ ع ع ع۱۵۱۱۱۱

العجل العجل الساعۃ الساعۃ الرجاء الرجاء

۹۲۵مم۹ ی۱۱۸۸۱۱ ۷وا۷و ا۷طاہ ۱۱۸۸۱۱ع اس اوالرا

شادی کی بندش ختم

اس طلسم کو تحریر کر کے گلے میں ڈالیں اور محبت کیلئے تحریر کے بعد ہوا میں لٹکائیں اور وزن کے نیچے رکھیں پھر تماشہ دیکھیں۔ طلسم یہ ہے۔

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
نزد جامع مسجد تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474 , 0322-6865052

”ایحس دتر ستصی طشعغ کیلش متوغ هصاخ حصدخ رتسق صخطت عرکن لقمذ وظهی اشحت دظرظ سغصف طتعذ کخلخ معون“ الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں۔

برائے بخت کشائش (مجرب)

ایسی لڑکیاں یا لڑکے جنکی منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہوں یا نکاح کی تاریخ آنے سے پہلے جواب مل جاتا ہے ان کیلئے ایک خاص الخاص تحفہ ہے اس طلسم کو لکھ کر گلے میں پہنے انشاء اللہ چند ہی دنوں میں شادی ہو جائے یا پھر کسی کی بیوی روٹھ گئی ہو کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہو تو یہ طلسم ۲۴ گھنٹے کے اندر اندر کام کرتا ہے، اس طلسم کو تحریر کر کے ایک وزن کے نیچے دوسرا نہر میں تیسرا آگ میں چوتھا ہوا میں لٹکائیں، طلسم لکھنے کا وقت جب منزل قمری جبۃ میں ہو اور ساعت زہرہ یا مشتری کی طلسمی ہو تو اس طلسم کو لکھیں پھر استعمال میں لائیں،

یفش متغف حتظی مشزغ ریشش تتسغ
نصیخ فصمخ غتخق طصصت زررن
شقغذ سظنی یشفت مظغظ خسظف
صتذد رحشغ تصسن

الٰہی فلاں کی شادی فلاں سے انجام ہو۔
یا محبت کیلیے ، الحب فلان بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دختران بخت

اس طلسم کو لکھ کر پانی میں ڈالیں پانی مرد و عورت منہ دھوئے بخت کشادہ ہوگا،

ا ہ ا ہ ا ہ ا ہ لہ لہ لہ ہبتا ہبہ بلا ہبہ امین لا لا لا ابن جا لعجیل لعجیل لعجیل نافع، ر

اگر رشتہ نہ آتا ہو۔

اگر کسی مرد یا عورت کا رشتہ نہ آر ہا ہو تو یہ نقش پہنیں چند روز میں مقصد حاصل ہو گا

۷۸۶

ص	ع
ط	ق
ک	

حصول رشتہ

چاند کی گیارہ سے بیس کے درمیانی جمعہ کو بعد نماز عصر درج ذیل آیات زعفران سے لکھ کر پاس رکھیں اور دھو کر پیئے تو اسکی شادی ہو جائے گی نیز یکم تا دس فراوانی رزق کیلئے بہت مجرب ہے، آیت یہ ہیں

"بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجًا منھم زھرۃ الحیوۃ الدنیا لنفتنھم فیہ ورزق ربک خیرٌ و ابقی وامر اھلک بالصلوۃ واصطبر علیھا لا نسئلک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ" (سورۃ طہٰ ۱۳۱، ۱۳۲)

بندش نکاح کا کھلنا

جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو وہ اس عمل کو چاند کی ۳ تاریخ سے شروع

کریں اور اس عمل کو ۲۱ دن تک پڑھیں ناغہ نہ ہونے دیں اس عمل کو بعد نماز عشاء اور فجر پڑھیں،

سورۃ العمران کی پہلی ۳ آیات اول و آخر درود شریف ۱۱ بار، درمیان میں ۳۱۹ مرتبہ ان آیات کو پڑھیں۔ **"الم، اللّٰہ لا الٰہ الا ھو الحی القیوم نزل علیک الکتب بالحق مصدقا لما بین ایدیہ انزل التورۃ والانجیل"**

رشتہ ہو جائے (مجرب)

اس آیت کو رات ۱۲ بجے پڑھیں ۱۱ دن انشاء اللہ تیسرے دن رشتہ آجائے گا جس جگہ شادی کرنی ہو گی اس آیت کو ۱۴ مرتبہ پڑھیں اول و آخر ۳ بار درود شریف، سورۃ لقمان پارہ نمبر ۲۱ آیت نمبر ۱۶ اصل یہ ہے

"یبنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ اوفی السموت اوفی الارض یات بھا اللّٰہ ان لطیف خبیر"

نوٹ : عمل شروع کرنے سے پہلے وضو کرلیں اور ۱۲ بجے فوراً اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، عمل کی اجازت لینا ضروری ہے اجازت کیلئے ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ کا رکنیت فارم پر کریں اور ساتھ جوابی لفافہ کے ہمراہ اجازت طلب کریں۔

شادی اور محبت کیلئے

یہ عمل شادی کیلئے بہت ہی اکسیر عمل ہے جتنے لوگوں کو بھی یہ عمل بتایا گیا یعنی عامل کامیاب رہا، یہ نقش تیر بہدف ہے دو عدد نقش زعفران سے لکھ کر ایک گلے میں ڈال دیں دوسرا نقش قرآن کی سورۃ یٰسین میں رکھیں آیت سلام قول من رب رحیم، کے ساتھ، اور سورۃ یٰسین کی تلاوت کریں، تو نقش پر نظر بھی ڈالتے جائیں جب آیت سلام قول من رب

رحیم پر پہنچیں تو یہ آیت ۷۰ مرتبہ تکرار کریں اور سورۃ یٰسین مکمل کریں۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۳۱ سلام	۱۳۷ قولا	۲۹۲ من رب	۲۵۸ رحیم
۲۹۲ من رب	۲۵۸ رحیم	۱۳۱ سلام	۱۳۷ قولا
۲۵۸ رحیم	۲۹۲ من رب	۱۳۷ قولا	۱۳۱ سلام
۱۳۷ قولا	۱۳۱ سلام	۲۵۸ رحیم	۲۹۲ من رب

الحب فلاں بن فلاں علی حب جس سے شادی کرنا مقصود ہو اس کا نام لکھیں مع والدہ

رکاوٹ شادی

جس بچی کی شادی میں رکاوٹ ہو رشتے آ کر چلے جاتے ہوں کوشش کے باوجود رکاوٹ ہو تو یہ عبارت خالص زعفران سے لکھ کر پانی کے گلاس میں ڈال دیں اور روزانہ تلاوت کریں انشاء اللہ رشتہ مل جائے گا۔ عبارت عمل یہ ہے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کل شیئٍ خلقناہ زوجین لعلکم تذکرون اللھم بحق قولک ھذا وبحرمۃ نبیک محمد ﷺ ان لرزق فلاں بنت فلاں زوجا موا فقا غیر مخالفٍ بحق محمد الہ اجمعین۔“

انشاءاللہ شادی ضرور ہوگی

اس نقش کو نئے چاند کے پہلے یا دوسرے جمعہ کی پہلی ساعت زہرہ میں عرق گلاب و زعفران سے لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں سی کر گلے میں پہن لے نقش لکھنے کے بعد نیچے اپنا مقصد ضرور لکھیں اگر عام حالت میں لکھنا ہو تو نیچے اسطرح لکھے، الٰہی بحرمت اس

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

نقش کے فلاں بن فلاں کی شادی ہو جائے العجل العجل العجل الساعۃ الساعۃ الساعۃ، اگر مطلوب فوکس ہے تو یوں لکھے اور ہمیشہ مطلوب کا نام پہلے لکھا جاتا ہے الٰہی بحرمت اس نقش کے فلاں بنت فلاں کی شادی فلاں بن فلاں کے ساتھ ہو جائے العجل العجل العجل الساعۃ الساعۃ، ۔۔نقش یہ ہے۔

۹۹۸۱۳	۹۹۸۲۷	۹۹۸۲۳	۹۹۸۲۰
۹۹۸۲۴	۹۹۸۱۹	۹۹۸۱۴	۹۹۸۲۶
۹۹۸۱۸	۹۹۸۲۱	۹۹۸۳۰	۹۹۸۱۵
۹۹۸۲۹	۹۹۸۱۶	۹۹۸۱۷	۹۹۸۲۲

جلد شادی ہو (مجرب)

اگر کسی کنواری لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو یا رشتوں کے پیغام نہ آتے ہوں تو اس کلمہ کو بھوج پتر پر لکھ کر لڑکی اپنے پاس بطور تعویز رکھے انشاء اللہ جلد شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، کلمہ یہ ہے۔

"اللھم یا خیثوا امیثورا ارقش ادا علیتون اللھم یا دھمریش ارخا ارخیم ارخیمون، الذی ھو الرحمن الرحیم ملاء کل شی عدله ورحمته و کرمه" توھوتاش۔ میراش۔ ھیطش۔ شاھیلش ۔دراٸیش۔ ملیش۔ دھلنوش۔

رشتے کیلئے مجرب عمل

جس بچہ یا بچی کا رشتہ نہ آتا ہو یا اکثر جواب ملتا ہو تو اس کیلئے یہ عمل مجرب المجرب ہے، سورۃ یٰسین آیت نمبر ۳۵ مکمل ۱۷ بار صبح و شام جس کیلئے پڑھنا ہو اس کا تصور ضرور رکھیں یہ عمل ۲۱ دن کریں، اول و آخر درود شریف ۳ بار پڑھیں، آیت یہ ہے۔

"سبحن الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن

انفسیهم ومما لا یعلمون۔"

نکاح ہو جائے۔

جس کسی سے نکاح کرنا ہو تو یہ عمل ۱۱ دن صبح ۱۰ بجے پڑھیں ۱۱ بار اول و آخر درو شریف انشاء اللہ ۶ دن کے بعد اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، عمل یہ ہے۔

"وَالضُّحٰی ⋆ وَاللَّیْلِ إِذَا سَجٰی ⋆ مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلٰی ⋆ وَلَلْآخِرَۃُ خَیْرٌ لَّکَ مِنَ الْأُوْلٰی ⋆ وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی ⋆ أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْماً فَآوٰی ⋆ وَوَجَدَکَ ضَالّاً فَهَدٰی ⋆ وَوَجَدَکَ عَائِلاً فَأَغْنٰی (فلاں بنت فلاں کا نکاح فلاں بن فلاں سے جلد ہو) ⋆ **فَأَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تَقْهَرْ ⋆ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ⋆ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ ⋆"**

سحر کی وجہ سے شادی نہ ہوتی ہو

ایسی نوجوان لڑکی جس پر سحر کا عمل کیا گیا ہو اور باوجود کوشش کے اس کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کیلئے یہ عمل کریں انشاء اللہ وہ لڑکی مثل زہرہ خوبصورت لگے گی کہ فوراً اس کا رشتہ ہو جائے گا، اور سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ طلسمات کو سفید کاغذ پر تحریر کریں اور نیچے کنواری لڑکی کا نام مع والدہ بھی تحریر کریں پھر اس کو بانس کے چھوٹے سے ٹکڑے میں رکھ کر اسے آگ کے قریب دفن کر دیں مقصد پورا ہوگا، عمل طلسم یہ ہے۔

ک ۵۲۱۱ رم والکره ھ ۱۱ ل ع ۱ ه س ۲ ھ ۱۱ ه

ا-ل م ۲۵۱۰۰ ص ۱۹۲۱۱ ل ۴۱۹۱۱ ه

رشتوں کا پیغام آئے

اگر کنواری لڑکی کی منگنی نہ ہوتی ہو یا رشتہ کا کوئی پیغام نہ آتا ہو تو اس کیلئے یہ نقش

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرکلر روڈ نزد جامع مسجد تحصیل میلسی ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

تحریر کر کے دیں اور لڑکی اپنے گلے میں ڈال لے انشاء اللہ بہت جلد پیغام آئے گا، منگنی یا شادی ہو جائے گی، نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ک ک ک ک ک ک ک

ک	ان ۲	و ۲۴	دن ۲	ک
ک	ج ن ۲	۲۵۰	ح م ۲	ک
ک	ے م ۲	ھ ن ۲	ط م ۲	ک
ک	ک	ک	ک	ک

ک ک ک ک ک ک ک

پیغام نکاح

جس لڑکی یا لڑکے کا نکاح کا پیغام نہ آتا ہو یا کسی نے نکاح و نسبت باندھ دی ہو یا شادی میں رکاوٹ ہو سب کیلئے یہ عمل بڑا لاجواب ہے تحریر کر کے گلے میں ڈال لیں۔

”واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهد وامنافع لهم لتعین بدلاً صالحا یا تی فلان بنت فلان بحق هذه الاسماء وصلی اللّٰه علی سیدنا محمد و علی اله وسلم۔“

شادی ہو

اگر کسی لڑکی کیلئے شادی کا پیغام نہ آتا ہو تو اس کیلئے یہ نقش تحریر کر کے گلے میں ڈال دیں انشاء اللہ چند دنوں میں اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱	۱۴	۱۱	۸
وینصرك الله نصرا عزیزا	نصر من الله و فتح قریب	ان تسقفتحو فقدجا محکم الفتح	انا فتحنالك فتحا مبینا
ه۲۱۷	ب۱۲۳	ط۸۷	۱۳ اش۱
۱۲۳۱	۲ع۲۱	د۱۳۰	ف۸
۱۳۰۳	۸۸۱	۱۲۳۰	۲۱۷۳

الہٰی بحرمت ایں نقش مبارك فلاں بنت فلاں کا بخت کشادہ ہو

من پسند جگہ شادی ہو

من پسند رشتہ کیلئے مندرجہ ذیل نقش لکھ کر دو پتھروں کے درمیان دبا دیں ان دونوں پتھروں کا وزن دو کلو سے کم نہ ہو نقش کے نیچے لڑکی کا نام مع والدہ پھر اس لڑکے کا نام مع والدہ تحریر کریں جس سے شادی کرنا مطلوب ہو۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اف	جع	طع
ھع	ح ع	ف
زع	ب ف	دع

نام لڑکی مع والدہ الحب نام لڑکا مع والدہ

بخت کشادہ ہو

اگر کسی نوجوان لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورۃ ممتحنہ ایک نشت میں پانچ مرتبہ پڑھ کر لڑکی اپنی شادی کیلئے دعا کرے اور اس عمل کو مسلسل پانچ روز تک کرے، اگر لڑکی خود نہ کر سکے تو اس کی والدہ یا کوئی بہن بھائی عمل کرے اور پھر اس لڑکی کا نام لے کر شادی

کیلئے دعا کرے، عمل سے قبل مندرجہ ذیل نقش جو اس سورۃ مبارکہ کا ہے تحریر کر کے لڑکی کے گلے میں ڈال دیا جائے، انشاء اللہ بہت جلد رشتوں کا سلسلہ شروع ہو جائیگا، نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۲۵۳۳۰	۲۵۳۴۳	۲۵۳۴۰	۲۵۳۳۷
۲۵۳۴۱	۲۵۳۳۶	۲۵۳۳۱	۲۵۳۴۲
۲۵۳۳۵	۲۵۳۳۸	۲۵۳۴۵	۲۵۳۳۲
۲۵۲۴۱	۲۵۳۳۳	۲۵۳۳۴	۲۵۳۳۹

بحرمت کشادہ فلاں بنت فلاں

دختران پیران کی بخت کشائی

یہ عمل نادعلی صغیر کا ہے اس عمل کو کرنے سے سات دن کے اندر بچوں کے رشتے ہو جاتے ہیں نادعلی پڑھنے کا کچھ طریقہ یوں ہے کہ نادعلی اتوار کے دن شروع کرنا ہے یعنی نوچندی اتوار ہونا ضروری ہے، اتوار کے دن نادعلی صغیر ۹۹ مرتبہ پڑھیں پیر کو ۹۹ مرتبہ پڑھیں منگل کو ۹۱ مرتبہ پڑھیں بدھ کو ۶۷ مرتبہ، جمعرات کو ۴۷ مرتبہ، جمعہ کو ۴۳ مرتبہ، ہفتہ کو ۲۸ مرتبہ نادعلی صغیر پڑھنا ہے اور نادعلی کا نقش اپنے گلے میں پہنے انشاء اللہ شادی سات دنوں کے اندر ہو جائے گی، نادِعلی صغیر یہ ہے **"بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیا مظہر العجائب تجدہ عونالک فی النوائب کل ھم و غم سینجلی بعظمت یا اللہ بنبوتک یا محمد** ﷺ **وبلایتک یا علی علی علی ادرکنی"** جناب حضرت مولانا پیر سعید احمد سعدی فرماتے ہیں کہ نادعلی کے ساتھ اگر باکرہ لڑکی کو یہ تعویذ پہنا دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔

وقولہ شمکائیل ۷۸۶ شفقیائیل الحق

۱۳۷۳	۱۳۸۶	۱۳۸۳	۱۳۸۰
۱۳۸۴	۱۳۷۹	۱۳۷۴	۱۳۸۵
۱۳۷۸	۱۳۸۱	۱۳۸۸	۱۳۷۵
۱۳۷۸	۱۳۷۶	۱۳۷۷	۱۳۸۲

الملک ففقطشائیل نذرعلی بن غلام فاطمہ کا نکاح فوراً ہوجائے لوبائیل ولہ

نکاح میں مشکلات

اگر نکاح میں مشکلات آرہی ہوں تو اس دعا کو صبح وشام دس مرتبہ پڑھیں

”بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ایاک نعبد وایاک نستعین برحمتک یا ارحم الرحمین“

جادو یا سحر کی وجہ سے بندش نکاح

اگر جادو یا سحر کی وجہ سے نکاح میں بندش آرہی ہے تو ان دونوں سورۃ کو ۲۱ دن تک زعفران سے چینی کی پلیٹ پر تحریر کرکے شہد خالص کے ساتھ چاٹیں انشاء اللہ تمام بندش ختم ہوجائیں گی، لکھنے والی سورۃ یہ ہیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور آیت الکرسی۔ بعد ۲۱ دن کے صدقہ بھی ادا کریں۔

پیغام شادی فوراً آئے

یہ عمل حضرت مولانا پیر سعید احمد سعدی کا مجرب عمل ہے آپ ادارہ روحانیہ سرور نظامیہ کے مجلس صدر ہیں آپ ہمیشہ اس عمل سے دکھی بیٹیوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ سورۃ مزمل کے عامل ہیں، جس بچی یا بچے کی شادی نہ ہورہی ہو تو آپ سورۃ مزمل کا نقش بنا کر

اسے پہناتے ہیں، انشاء اللہ چند دنوں میں ہی بچیاں اپنا پیا گھر چلی جاتی ہیں،

قولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق

۱۷۳۱۲	۱۷۳۲۶	۱۷۳۲۳	۱۷۳۱۹
۱۷۲۴	۱۷۳۱۸	۱۷۳۱۳	۱۷۳۲۵
۱۷۳۱۷	۱۷۳۲۱	۱۷۳۲۸	۱۷۳۱۴
۱۷۳۲۷	۱۷۳۱۵	۱۷۳۱۶	۱۷۳۲۲

الملک الٰہی فلاں بن/ بنت کا نکاح جلد ہو، آمین ولہ

من پسند شادی

یہ عمل بھی حضرت بابا سعید احمد سعدی کا ہے اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی من پسند جگہ شادی میں رکاوٹ ہو رشتہ طے نہیں ہوتا یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو تو ایسے میں یہ عمل نہایت مجرب ہے، سورۃ ممتحنہ ایک بار، سورۃ بقرہ کی آیات نمبر ۸۷، ۸۸، سورۃ مومن کی آیات ۴۴، ۴۵، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۰ کو روزانہ چالیس دن تک تلاوت کریں اور شادی کیلئے دعا کریں انشاء اللہ جلد بندوبست ہو جائے گا،

ادارہ روحانیہ سروری نظامیہ
سرگودھا روڈ جامع مسجد مدنی تحصیل میلسی شریف ضلع وہاڑی
Ph: 0307-5908474, 0322-6865052

عمل برائے شادی

آج کل کے مشکل دور میں شادی ایک مسئلہ ہے والدین سخت پریشان ہیں رشتہ پسند کرنے کے بعد دوبارہ نہیں آتے تو ایسے میں یہ ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ **"بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین"** ۷۰ بار روزانہ اور آیات قطب جو کہ ۲ آیات ہیں سورۃ ال عمران کی آیت نمبر ۱۵۴، سورۃ الفتح کی آیت نمبر ۲۹، سورۃ فاتحہ کے بعد ان آیات کو روزانہ گیارہ مرتبہ ۴۰ دن نوچندی جمعرات یا اتوار کو عمل شروع کریں، انشاء اللہ دوران عمل شادی ہو جائے گی۔

شادی کا مجرب ترین عمل

یہ عمل حضرت مولانا خدا بخشؒ کے سینہ کا راز ہے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ والدین کو اپنے بچوں کے رشتے کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی، ایسے والدین کیلئے یہ عمل مجرب ترین ثابت ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس عمل کے کرنے کے بعد بھی شادی نہ ہو تو بروز قیامت میرا مواخذہ کریں، میرا دامن پکڑیں، اگر اس عمل کو نیک نیت سے کیا جائے تو انشاء اللہ فوراً شادی ہو جائے گی آپ لکھتے ہیں کہ دعا شب جمعہ گندم کے ۱۴۱ دانوں پر پڑھ کر چھت پر ڈال دیں تا کہ پرندے کھائیں ہر دانے پر ایک بار یہ دعا پڑھیں اور پیارے رب سے شادی کی دعا کریں، دعا یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم: **لا الہ الا اللّٰہ بعونک وقدرتک لا الہ الا اللّٰہ بحق وحرمتک لا الہ الا اللّٰہ فرجتی من امری فرجا ومخرجا ربنا یا ارحم الراحمین۔** اور یہ نقش ہے گلے میں ڈالیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا مغنی	یا مغنی	یا مغنی	یا مغنی
یا مغنی	یا مغنی	یا مغنی	یا مغنی
یا مغنی	یا مغنی	یا مغنی	یا مغنی

سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم وبحمدہ استغفر اللہ

تمت بالخیر۔